


سیرت مجددین و ملت
امام احمد رضا
قدس سرہ



حضرت علامہ عابد الحکیم خان اختر شاہ جہان لوری
رحمۃ اللہ علیہ



ادارہ معارف نعمانیہ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرسِ اعلیٰ حضرت ۱۴۲۸ھ کے مبارک موقع پر عاشقانِ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کیلئے تحفہ

سیرتِ مجددِ دین و ملت

امام احمد رضا
الغیتنی
قدس سرہ

مؤلف

حضرت علامہ عبدالحکیم خان اختر شاہجہان پوری
مشافطہ



ضروی فاؤنڈیشن پاکستان
ادارہ معارف و اوقاف و تنظیمات

حیاتِ مجدد

عربا در کعبہ و بیتخانہ می نالد حیات
تا زبزم عشق یک دانائے راز آید بروں

انقلاب ۸۵ء سے ایک سال قبل، ۱۰ ارشوال ۱۲۰۲ھ / ۱۳ جون ۱۸۵۶ء کو یہ اسلامی انقلاب کا بیباک نقیب، محافظ اسلام، فقیدہ اعظم، نابغہ عصر، یگانہ روزگار، سرمایہ افتخار، مسلمانوں کا یاد اور، علمائے علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اسلاف کی مقدس یادگار، سفیت کا علمبردار اور مجدد دین و ملت برہنہ شہر کے محلہ سوہاگراں میں مولانا نقی علی خاں (المتوفی ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء) ابن مولانا رضا علی خاں (المتوفی ۱۲۸۲ھ / ۱۸۶۵ء) کے علمی گھر آنے میں پیدا ہوا۔ پیدائشی نام "محمد"، تاریخی "المختار" رکھا گیا۔ جدِ امجد مولانا رضا علی خاں رحمۃ اللہ علیہ آپ کو احمد رضا خاں کہا کرتے تھے لیکن سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیچا غلام فخریہ اپنے اس نام سے پہلے عبدالمصطفیٰ کا اضافہ کر کے یوں لکھا کرتا تھا: عبدالمصطفیٰ احمد رضا خاں۔ اسی لیے تحریثِ نعمت کے طور پر کہا ہے: ہ

خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے مجددِ مصطفیٰ

تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے

احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کی حیات مبارکہ اور سیرت مقدسہ کا خاکہ دیکھنا ہو، تو اس آبیہ کریمہ کے معانی و مطالب میں غور کر لینا کافی ہے جو خاتمہ قدرت نے اپنے اس بندے کی تاریخِ ولادت کے لیے اس کی زبان پر جاری فرمائی تھی۔ وہ الہامی تاریخ یہ ہے:

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۗ

۴۲
آپ نے چار سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا، چھ سال کی عمر میں منبر پر بیٹھ کر مجمع عام کے سامنے میلاد شریف پڑھا، آٹھ سال کے ہوئے تو ہدایۃ النوح کی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سلسلہ اشاعت ۱۴۲

بفیضانِ کرم:- شیخ السلام والمسلمین نبیرہ اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلوی دامت برکاتہم العالیہ

نام کتاب:- سیرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز

مصنف:- حضرت علامہ عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہان پوری

سن اشاعت:- صفر المظفر ۱۴۲۸ھ / مارچ ۲۰۰۷ء

تعداد:- 1100

شرف اشاعت:- ادارہ معارف نعمانیہ لاہور / رضوی فاؤنڈیشن پاکستان

ہدیہ:- دُعائے خیر بحق معاومین

نوٹ:- بیرون جات کے شائقین مطالعہ 18 روپے کے ڈاک ٹکٹ ارسال فرما کر طلب فرمائیں



رضوی فاؤنڈیشن پاکستان ادارہ معارف نعمانیہ لاہور

323 مرکزی جامع مسجد حنفیہ نوشہ شاد باغ لاہور E-mail: rizvifoundation@hotmail.com

عربی میں شرح لکھی اور تیرہ سال دس ماہ کی عمر میں ۱۳ شعبان ۱۲۸۶ھ / ۱۸۷۰ء کو تمام علوم دینیہ عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کر کے سند فراغ حاصل کی۔ اسی روز رضاعت کے بارے میں ایک استفتاء کا جواب لکھ کر اپنے والد محترم، مولانا نقتی علی خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بضرع اصلاح پیش کیا۔ جواب بالکل درست تھا۔ والد ماجد نے اسی روز سے فتویٰ نویسی کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی اور خود اس بارگراں سے سبکدوش ہو کر باقی عمر یاد الہی میں بسر کرنے کا تہیہ کر لیا۔

آپ نے ابتدائی تعلیم مزا غلام قادر بیگ سے پائی، اکثر علوم دینیہ، عقلیہ و نقلیہ اپنے والد ماجد نقتی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۹۰ھ / ۱۸۸۰ء) سے حاصل کیے۔ بعض علوم کی تکمیل مولانا عبدالصالی رام پوری، مرشد گرامی شاہ آل رسول مارہروی (المتوفی ۱۲۹۴ھ / ۱۸۸۰ء) اور شاہ ابوالحسن نوری مارہروی (المتوفی ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۶ء) سے کی۔ ۱۲۹۱ھ / ۱۸۷۵ء میں آپ کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ یہ مبارک تقریب شرعی طریقے پر انتہائی سادگی سے انجام پائی اور کوئی لالیچنی رسم اس موقع پر طریقہ سے ادا نہ کی گئی۔

۱۲۹۳ھ / ۱۸۷۸ء میں اعلیٰ حضرت اپنے والد ماجد کے ہمراہ، مارہرہ شریفیت حاضر ہوئے اور سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۹۴ھ / ۱۸۸۰ء) کے دستِ حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت ہوئے۔ ساتھ ہی چاروں سلاسل کی اجازت اور خرقہ خلافت سے بھی نوازے گئے۔ اہل نظر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت پیر و مرشد اس بیعت کے چند روز پہلے سے یوں نظر آتے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں اور جب یہ دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو بشارت ہو کر فرمایا: تشریف لائیے، آپ کا تو بڑا انتظار تھا۔ (واللہ اعلم بالصواب)۔ مرشد گرامی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے اس موقع پر انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور اس کی وضاحت ہاں الفاظ فرمائی:

”آج وہ فکر میرے دل سے دور ہو گئی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے آل رسول! تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ الہی! میں

تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں! لے

امام احمد رضا خاں بریلوی نے ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء میں اپنے والدین کریمین کے ہمراہ فریضہ حج ادا کیا اور مدنی سرکار، کوئین کے ناچار، احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ یکس پناہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی، جس سے دلوں کو نور، آنکھوں کو سور اور ایمان کو جلا متی ہے۔ سب کا دیکھنا حقیقت میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا اور جھٹلانے والوں نے بھی دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا اور ابو جہل نے بھی، کیا ان سب کا دیکھنا ایک جیسا تھا، ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے آپ کو جیسا جانا اور مانا، بس ویسا ہی دیکھا۔ آپ ایک شفاف ترین آئینہ ہیں۔ جیسا کسی کا آپ کے متعلق عقیدہ ہے ویسے ہی آپ اُسے اس آئینے میں نظر آجاتے ہیں۔ اس عارفِ کامل اور اہل نظر نے آپ کو پہچان لیا تھا اور مسلمانوں کو بھی درس دیتے رہے تھے کہ وہ بھی اسی نظر سے مولا کے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کو دیکھا کریں یعنی:

ساجو آؤ! شہنشاہ کا روضہ دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو

اس موقع پر ایک عجیب واقعہ ظور پذیر ہوا، جس کا مولوی رحمن علی مرحوم نے یوں تذکرہ کیا ہے:

”ایک دن نماز مغرب مقام ابراہیم علیہ السلام میں ادا کی۔ نماز کے بعد امام شافعیہ جیسین بن صالح جبل اللیل بغیر کسی سابقہ تعارف کے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے گھر لے گئے، دیر تک ان کی پیشانی کو تھامے رہے اور فرمایا: ”انی لاجد نور اللہ من ہذا الجبین“ (بیشک میں اس پیشانی سے اللہ کا نور پاتا ہوں) اس کے بعد صحاح ستہ کی سند اور سلسلہ قادریہ کی اجازت اپنے دستِ خاص سے مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام ضیاء الدین احمد ہے۔ سند مذکور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہنک گیارہ واسطے ہیں! لے

اسی موقع کے متعلق موصوف نے مزید یوں بھی لکھا ہے:

”میرے معتمد ہیں شیخ جبل اللیل موصوف کے ایما سے رسالہ جوہر مضمینہ کی شرح

جو ناسک حج میں شافعی مذہب کے مطابق ہے، دو دن میں لکھی۔ یہ رسالہ شیخ حسین بن صالح کی تصنیف ہے۔ مولوی احمد رضا خاں نے اس (شرح) کا نام "السيرة الوضیة فی شرح الجوہرۃ المصنۃ" لکھ کر شیخ کی خدمت میں لے گئے۔ شیخ نے ان کے حق میں تحسین و آفرین فرمائی۔ رات کو یعنی نماز عشاء کے بعد مولوی احمد رضا خاں مسجد حنیف میں تنہا ٹھہر گئے اور وہاں مغفرت کی بشارت پائی۔ اللہ ان کو سلامت رکھے !

۱۲۲۳ھ / ۱۹۰۵ء میں آپ دوسری دفعہ حج بیت اللہ اور زیارتِ روضہ مطہرہ کی سعادت سے بہرہ مند ہوئے۔ حرمین شریفین کی یہ حاضری غیبی تھی کیونکہ اس میں حق و باطل کا تاریخی فیصلہ ہونا تھا۔ یہ حاضری اس لیے مخصوص تھی کہ جن لصوص دین کی آپ ترویج کرتے رہے تھے اور وہ کسی طرح باز آتے، تو مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے یعنی خیر خواہی اسلام و مسلمین کی خاطر، ۱۳۲۰ھ میں المتعد المتند کے اندر حکم شرع بیان کرتے ہوئے ان علمائے سوئے کی تکفیر کا شرعی فریضہ ادا کیا تھا، قسام ازل کو یہ منظور تھا کہ آپ کے اس فتوے کی تصدیق و تائید دربار رسالت یعنی دیا رب رسول سے ہو جائے۔ چنانچہ علمائے حرمین شریفین نے آپ کے فتوے کی تصدیق و تائید کی، اس کے متعلق تقریبات لکھیں، جن کے مجموعے کا تاریخی نام "حسام الحرمین علی منحرا الکفر والبدیع" ہے۔

اسی مبارک موقع پر "الدولة المکیة بالمادة الغیبیة" حبیبی تالیف منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ ہندی اور نجدی وہاں ہوں نے شریفین کے دربار میں مسئلہ علم غیب پیش کیا ہوا تھا۔ مفتی احناف شیخ صالح کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۶ء) کی خدمت میں وہاں بیہ کی جانب سے پانچ سوال پیش ہو چکے تھے۔ مفتی احناف کا درجہ ان دنوں شریفین کے بعد دوسرا شمار ہوتا تھا۔ موصوف نے وہ سوال اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے

لے موصوف کا وصال ۱۳۰۲ھ / ۱۸۸۳ء میں ہوا۔

لے محمد ارباب قادری، تذکرہ علمائے ہند اردو، ص

بخار کی حالت میں مختلف نشستوں کے اندر ساڑھے آٹھ گھنٹوں میں "الدولة المکیة" کے نام سے بغیر کتابوں کی مدد کے وہ جواب لکھا کہ علمائے مکہ انگشت ہندان ہو گئے اور منکرین شان رسالت کا تو ایسا منہ بند ہوا کہ ساکت و مبہوت ہو کر رہ گئے۔ یہ مایہ ناز علمی شہکار اور تائید ایزدی و نظر عنایت مصطفوی کا زندہ ثبوت ستر سال سے لاجواب ہے اور قیامت تک لاجواب ہی رہے گا، کیونکہ "الاسلام یعلو ولا یعلیٰ"۔ اسلام غالب ہی رہتا ہے یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔

یہ رسالہ شریفین مکہ کے دربار میں، منکرین و معاندین کے روبرو، مولانا شیخ صالح کمال قاضی مکہ مکرم نے پڑھ کر سنایا۔ اس وقت منکرین شان رسالت کی جو رو سیاہی ہوئی وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ علمائے مکہ مکرم اور ان کے بعد علمائے مدینہ منورہ اور ان کے بعد دیگر بلاد و امصار کے علمائے کرام و مفتیان عظام نے اس رسالے پر دھوم و دھام سے ساہا سلاں تک تقریبات لکھیں اور ارسال فرمائیں۔ امام احمد رضا خاں بریلوی کو عظیم و جلیل خطابات سے نوازا اور حرمین طیبین کے علمائے کرام نے جو پورے عالم اسلام کے لیے قابل تعظیم و لائق احترام ہیں، آپ کا عیدم النظیر اعزاز و اکرام کیا۔ آپ کو نادر روزگار، سرمایہ افتخار، سرتاج العلماء، فقیہ اعظم، محقق یگانہ، محافظ شان رسالت، حجت الہی کی تیغ برآں، امام اہلسنت اور مجدد دین و ملت قرار دیا۔ آپ سے سنیدیں اور اجازتیں لیں۔

یہی وہ مبارک موقع تھا جب رسالہ مبارکہ "کفل الفقہ الفہم فی احکام قرطاس الدرہم" کی تصنیف عمل میں آئی۔ نوٹ ان دنوں ایک نئی ایجاد تھی۔ عالم اسلام کے علمائے کرام و مفتیان عظام اس کے بارے میں تسلی بخش شرعی حکم معلوم نہ کر پائے تھے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی کی معتاد عظمت اور علمی وسعت علمائے حرمین اور خصوصاً علمائے مکہ مکرمہ پر واضح ہو چکی تھی۔ موقع غیبت جان کر مکہ معظمہ کے دو عالموں نے نوٹ کے متعلق بارہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ان سوالوں کے جو محققانہ جوابات تحریر کیے گئے وہ ایک رسالے کی صورت میں "کفل الفقہ" کے نام سے جمع کیے گئے۔ علمائے حرمین نے اس رسالے کی متعدد نقلیں کیں اور مفتیان عظام نے اپنے اپنے صحیح حکم شرعی

معلوم کر کے پورے عالم اسلام کو اس پریشانی سے نجات دینے والا صرف امام احمد رضا خاں بریلوی ہے، آپ سے پہلے دنیا کے کسی عالم سے نوٹ کا صحیح حکم اور اس کی شرعی حیثیت بیان نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس سلسلے میں دیگر علماء کے ۱۳۲۴ھ/۱۹۰۶ء سے پہلے کے فتوے دیکھ کر ہمارے بیان کی خود تصدیق کی جاسکتی ہے۔

امام احمد رضا خاں بریلوی سچے عاقبتی رسول اور عشقِ رسولِ ہاشمی کی ایک گچھلتی ہوئی شمع تھے ۱۴ شعبان ۱۲۸۶ھ/۱۸۷۰ء سے ۲۵ صفر ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء تک نصف صدی سے زیادہ عرصہ آپ مسلمانانِ عالم کو محبتِ رسول کے جام پلانے رہے کیونکہ اسلام کی جان اور روح ایمان یہی ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی نور اللہ مرقدہ کا یہ میشن اُن کی تصانیف کے ذریعے آج بھی جاری ہے۔ اُن کی قلمی نگارشات قیامت تک مسلمانوں کو مست جامِ ہادۃ الفت اور ساقی کوثر و تسلیم کا والا شیدا بناتی رہیں گی۔ اعلیٰ حضرت کا عاقبتی رسول ہونا اُن کے مخالفین کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ ایک موقع پر آپ نے تحدیثِ نعمت کے طور پر فرمایا تھا: ”خدا کی قسم، اگر میرے دل کو چیر کر دو ٹکڑے کر دو، تو ایک پر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ اور دوسرے پر مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ لکھا ہوا پاؤ گے۔“ اسی لیے آپ بارگاہِ رسالت میں یوں اپنی تمنا پیش کیا کرتے تھے: ۵

کروں تیسرے نام پر جاں فدا ، نیزہ ایک جاں ، دو جہاں فدا
دو جہاں سے بھی نہیں جی جھبدا ، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

اس نابغہ عصر اور عظیم النظیر مصنف نے تقریباً پچاس علوم و فنون پر مستقل تصانیف چھوڑیں، جن کا شمار ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک ہزار کے لگ بھگ ہے۔ تحفہ تصانیف اور اتنے علوم کا جامع ہونے کے لحاظ سے یقیناً آپ کا شمار امت اسلامیہ کی منفرد اور ممتاز ہستیوں میں ہے۔ بعض علوم تو وہ ہیں جن کے موجد ہونے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ کئی ایسے علم بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ہی دفن ہو گئے اور اُن میں کسی کا پایا جانا تو دور کی بات ہے، اُن کی ادنیٰ معلومات رکھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ کے جامع العلوم ہونے پر مخالفین و معاندین کو بھی ناز تھا۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور تصوف وغیرہ کی ڈیڑھ سو کے لگ بھگ مشہور و متداول کتابوں پر حواشی لکھے تھے، جو کسی طرح مستقل تصانیف سے

م نہیں۔ لیکن واٹے ہماری بے حسّی۔ علامہ اقبال مرحوم کا دل اکابر کے جواہر پاروں، علمی شہکاروں کو یورپ کی لائبریریوں میں دیکھ کر سہمی پارہ ہونے لگ جاتا تھا لیکن دنیائے اسلام کے اس مایہ ناز محقق کے کتنے ہی علمی جواہر و ذخائر بریلی شریف میں کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ کیا یہ تاریخی المیہ، علم دوست حضرات کو خون کے آئسوزہ زلاتا ہوگا؟ کیا یہ موجودہ مصنفین اپنی تحقیقات کے ذریعے ہیں اس محقق یگانہ کی تحقیقات سے بے نیاز کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علمائے اہلسنت کا جواب خواہ کچھ بھی ہو، لیکن اس ناچیز کا سوال علامہ اقبال مرحوم کے لفظوں میں کچھ اس طرح ہے: ۵

مُہو بہو کھینچنے کا لیکن عشق کی تصویر کون
اُٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پرتیر کون

فاضل بریلوی قدس سرہ ایک بلند پایہ مفسر، مایہ ناز محدث، نادر روزگار متکلم اور عظیم النظیر فقیہ تھے۔ اس پر طرہ یہ کہ کتنے ہی دیگر علوم و فنون میں بھی آپ کو درجہ اامت حاصل تھا لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۵۰ھ) کے اس سچے وارث سے بھی امام المسلمین کی طرح فقہ کو اپنا خصوصی میدان قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فتاویٰ ظہور شریف آپ کا مایہ ناز علمی شہکار ہے۔ اس کا پورا نام بھی اس فنا فی الرسول ہستی نے وہی تجویز کیا جو حقیقت کا آئینہ دار ہے یعنی ”العطایا النسبویہ فی فتاویٰ الرضویہ“۔ یہ بارہ جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جلد جہاز می سائز کے تقریباً ایک ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ بعض فتوے تحقیق و تدقیق کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ آپ کے وہ معاصر جنہیں فقہت میں حرتِ آخر سمجھا جاتا تھا، جب اس امام اہلسنت کے فتوے اُن حضرات کی نظروں سے گزرے تو فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کے مقابلے میں اُنھوں نے خود کو طفلِ مکتب شمار کیا اور آپ سے کسب فیض کو غنیمت جانا۔ بعض مسائل پر داد و تحسین دیتے ہوئے جب آپ نے بارہ سو سالہ فقہی ذیضروں کو کھنگال ڈالا، امام اللہ قدس سرہ سے لے کر علامہ شامی علیہ الرحمۃ تک تحقیق کو پہنچایا، ہر دور میں اُسے جن لفظوں میں بیان کیا گیا، کسی سے کوئی کمی یا بیشی ہوئی تو

مگر دلائل کے تحت، غرضیکہ اس انداز سے میدانِ فقہت میں دادِ تحقیق دیتے چلے گئے کہ دنیا سے اسلام کے مایہ ناز علمی فرزندوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور آسمانِ فقہت کے شمس و قمر سجھے جانے والے حضرات آپ کی تحقیقاتِ جلید کو دیکھ کر انگشتِ بندان ہی رہ جاتے تھے۔ اسی لیے محکمہ کے جلیل القدر عالمِ دین، مولانا سید اسماعیل بن سید خلیل رحمۃ اللہ علیہما المتوفی ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء نے فرمایا تھا اور بجا فرمایا تھا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس ہستی کو دیکھتے تو اپنے اصحاب میں شامل فرما لیتے۔ آپ سے اختلاف رکھنے والے تو بے شمار ہیں لیکن شاید ایسا ایک بھی معاند اہل علم میں سے نہ مل سکے جو آپ کی عدیم النظیر فقہت کا منکر ہو۔ ان حقائق کے پیش نظر بے اختیار کہنا پڑ جاتا ہے کہ:

ہے فتاویٰ رضویہ تیرے قلم کاشت ہمار

سر بسر فضلِ خدا، نبوی عطا، پائندہ باد

آپ کا دوسرا علمی شہکار ”کنز الایمان فی توجیہ القرآن“ ہے۔ یوں تو قرآن کریم کا کتنے ہی علمائے اُردو زبان میں ترجمہ کیا ہے جن میں سے مولوی محمود الحسن دیوبندی (المتوفی ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء)، مولوی اشرف علی تھانوی (المتوفی ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء)، مولوی فتح محمد خان جالندھری، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اور جناب ابوالاعلیٰ مودودی کے تراجم پاک و سہند میں آجکل بڑی آب و تاب سے شائع ہو رہے ہیں اور ان حضرات کو کلامِ الہی کی ترجمانی کے علمبردار منوانے کی جبر پور سعی کی جاتی رہی ہے لیکن انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ان حضرات نے اپنے اپنے مخصوص خیالات کو ترجمے کی آڑ میں قرآن کریم سے ثابت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ مسلمانانِ اہلسنت و جماعت کو قرآنی خدمت کے نام پر اپنے اپنے دھڑے کی طرف کھینچنے اور اپنا معتقد بنانے کی ایک چکنی چوڑی جھارت ہے۔ ہماری دوسری کتاب متعلقہ کنز الایمان میں تحت ران اُردو ترجموں کی حقیقت پر مدلل بحث موجود ہے۔ انصاف پسند حضرات اُس بیان کو پڑھ کر انشاء اللہ تعالیٰ یہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ قرآن کریم کی ترجمانی کا اگر اُردو میں کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ ”کنز الایمان“ ہے اور بے ساختہ یوں پکارا نہیں گے کہ:

ترجمہ قرآن کا کھیا، کنز الایمان کہہ دیا

آپ کا تیسرا شہکار ”حدائقِ بخشش“ ہے۔ یہ آپ کا فقہی دیوان ہے۔ یعنی اس سچے عاشق، فنا فی الرسول نے اپنے محبوب کے اوصاف کلامِ الہی میں دیکھے، اُنھیں اپنے لفظوں میں بیان کر کے اپنے قلبِ مضطرب کو تسکین دی، مسلمانوں کو سکون بخش، راحت افزا نسخہ تیار کیا۔ محبوب کی صفت و ثناء بیان کرتے وقت قلب کا اضطراب، جگر کا سوز، آنکھوں کے آنسو اور سینے کی آہیں بھی الفاظ کے جسم میں پیوست کر کے پھر بلبلِ باغِ مدینہ بن کر چھپایا، اُس نے اپنے ان پیارے پیارے اور ایمان افروز لغزوں سے اہل اسلام کے قلوب کو گرایا، اُنھیں ساقی کوثر و نسیم کا شہید آئی بنایا اور لصوصِ دین کے زخموں سے نکال کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولیٰ، سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس پر جھکا یا کیونکہ:

بمصطفیٰ برسائلِ خویش را کہ دین ہمہ اوست

اگر باؤ نر سیدی تمام بولہبی ست

جس وقت بزرگوار پاک و ہند کی فضاؤں میں گاندھی کا طوطی بول رہا تھا اور کتنے ہی صاحبانِ جبہ و دستار بھی اُس کے ہاتھوں پر بیعت کر کے دینِ مصطفوی پر آزادی اور سوراج کو ترجیح دے رہے تھے، ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ بلند کر کے اسلام و کفر اور بت شکن و بت پرست کا فرق مٹایا جا رہا تھا، اکبری دور کی یاد تازہ کی جا رہی تھی، اُس وقت متحدہ قومیت کے فتنے کی مخالفت کرنے والے اور دو قومی نظریے کا علم بلند رکھنے والے، یہی امام احمد رضا خاں بریلوی تھے یا آپ کے رفقاء کا۔ اُن دنوں محمد علی جوہر، محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال مرحوم جیسے بیدار مغز لیڈر بھی ہندو مسلم اتحاد کی پُر زور حمایت کر رہے تھے اُس نازک وقت میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی قدس سرہ (المتوفی ۱۰۳۴ھ/۱۶۲۴ء) کی طرح دو قومی نظریے کا قندرانہ نعرہ فاضل بریلوی ہی بلند کر رہے تھے اور مسلمانانِ ہند کی سیاسی رہنمائی کا فریضہ ادا کر کے اُنھیں ہندوؤں میں مدغم ہونے سے بچا رہے تھے۔ ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء میں آپ نے ”المحجة المؤمنة“ کتاب لکھ کر گاندھی کے علماء کے سارے مزعمہ و دلائل کے تار پود بکھیر کر گاندھویت کے نابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اعلیٰ حضرت

بے اثر بنانے کی چڑو روکوشش کی۔ یہی حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا خاں بریلوی والا "دوقومی نظریہ" ہے جس کی بنا پر پاکستان کا وجود اور قیام عمل میں آیا۔

امام احمد رضا خاں بریلوی کو علم ریاضی میں کہاں تک کمال حاصل تھا اور یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ ان سوالات کے سلسلے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، جس میں مجھ امور کا ثانی جواب ہے:

"ایک مرتبہ سید سلیمان اشرف صاحب بہاری پروفیسر دینیات علی گڑھ کالج نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اس مضمون کا خط لکھا کہ: "ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب جو علم ریاضی میں جرمن، انکلیڈ وغیرہ مہماک کی ڈگریاں اور متعدد جات حاصل کیے ہوتے ہیں، ہر صدمہ سے حضور کی ملاقات کے مشتاق ہیں، پھر چونکہ وہ ایک جینیٹل مین ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں آتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں لیکن اب میرے کہنے اور اپنے اشتیاق ملاقات کے سبب حاضر ہونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، لہذا اگر وہ پہنچیں تو انہیں باریابی کا موقع دیا جائے۔"

اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا کو جواب بھیجا کہ وہ بلا تکلف تشریف لے آئیں۔ چنانچہ دو چار روز کے بعد ڈاکٹر سر ضیاء الدین بریلی پہنچ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔۔۔۔۔ نماز کے بعد دوران گفتگو میں اعلیٰ حضرت نے ایک قلمی رسالہ پیش کیا، جس کو دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب حیرت و استعجاب میں ہو گئے اور بولے کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بارہا غیر مہماک کے سفر کیے مگر یہ باتیں کہیں بھی حاصل نہ ہوئیں۔ میں تو اپنے آپ کو اس وقت بالکل طفلِ مکتب سمجھ رہا ہوں، مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ اس فن میں آپ کا استاد کون ہے؟

اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ سے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے چار قواعد صرف اس لیے سیکھے لیے تھے کہ ترکہ کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چغینی شروع کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اتنا وقت کیوں صرف

کرتے ہو؟ مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ سے یہ علوم تم کو خود ہی سکھا دیئے جائیں گے! اسی علم ریاضی کے متعلق ایک واقعہ اور پیش خدمت ہے، جس سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ جب کسی پر حبیب پروردگار، احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی نظر کرم ہو جائے تو اسے کس کس طرح نوازا اور نکھارا جاتا ہے۔ علامہ مظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ جوں رقمطراز ہیں:

"مولانا محمد حسین صاحب میرٹھی بانی طلسمی پریس بیان کرتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر، جنھوں نے ہندوستان کے علاوہ یورپ کے مہماک میں تعلیم پائی تھی اور ریاضی میں کمال حاصل کیا تھا اور ہندوستان میں کافی شہرت رکھتے تھے، اتفاق سے ان کو ریاضی کے کسی مسئلہ میں اشتباہ ہوا، ہر چند کوشش کی مگر وہ حل نہ ہوا۔ چونکہ صاحب حیثیت تھے اور علم کے شائق، اس لیے قصد کیا کہ جرمن جا کر اس کو حل کریں۔۔۔۔۔ وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: پوچھیے۔ وائس چانسلر صاحب نے کہا: وہ ایسی بات نہیں ہے جسے میں اتنی جلدی عرض کر دوں۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا: آخر کچھ نوفرہمائیے۔ غرض وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے سننے ہی فرمایا: اس کا جواب یہ ہے۔ یہ سن کر ان کو حیرت ہو گئی اور گویا آنکھ سے پردہ اٹھ گیا۔ بے اختیار بول اٹھے کہ میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے، آج آنکھ سے دیکھ لیا۔ میں اس مسئلہ کے حل کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا کہ ہمارے پروفیسر جناب مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہبری فرمائی۔"

س میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
دریا بہا دے ہیں، دُور بے بہا دے ہیں

امام احمد رضا خاں بریلوی کی فنِ تکمیل میں مہارت کا اندازہ کرنے کی خاطر یہ واقعہ اور وضاحت ملاحظہ ہو:

”اعلیٰ حضرت کے شاگرد حضرت مولانا سید ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کو ایک شاہ صاحب ملے، جن کا خیال تھا کہ فنِ تکمیل کا علم صرف مجھ کو ہے۔ دورانِ گفتگو میں مولانا بہاری نے اُن سے دریافت کیا کہ جناب نقشب مرثع کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ شاہ صاحب مذکور نے بڑے فخر یہ انداز میں جواب دیا کہ سولہ طریقے سے۔ پھر اُنھوں نے مولانا بہاری سے پوچھا کہ آپ کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ مولانا نے بتایا کہ الحمد للہ، میں نقشب مرثع کو گیارہ سو باون طریقے سے بھرتا ہوں۔ شاہ صاحب سن کر محو حیرت ہو گئے اور پوچھا کہ مولانا! آپ نے فنِ تکمیل کس سے سیکھا ہے؟ مولانا بہاری نے فرمایا، حضور پرنور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشب مرثع کتنے طریقوں سے بھرتے تھے؟ مولانا بہاری نے جواب دیا کہ دو ہزار تین سو طریقے سے۔ پھر تو شاہ صاحب نے ہمدانی کا کڑا دماغ سے نکال باہر کیا، لے

فنِ توقیت کی مہارت کے سلسلے میں علامہ بدر الدین احمد صاحب یوں رقمطراز ہیں:

”فنِ توقیت میں اعلیٰ حضرت کے کمال کا یہ عالم تھا کہ سورج آج کب نکلے گا اور کس وقت ڈوبے گا، اس کو بلا تکلف معلوم کر لیتے۔ ستاروں کی معرفت اور اُن کی چال کی شناخت پر اس قدر عبور تھا کہ رات میں تارا اور دن میں سورج دیکھ کر گھڑی بلا لیا کرتے اور وقت بالکل صحیح ہوتا، ایک منٹ کا بھی فرق نہ پڑتا۔“

۱۸ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو پٹنہ کے انگریزی اخبار ”ایکسپریس“ میں ایک امریکی سائنسدان، پروفیسر البرٹ کی ایٹمی شے کی شائع ہوئی۔ موصوف نے علم نجوم و ہیئت کے اُس پر متعدد دلائل قائم

کر کے اُسے ایک حقیقت منوانے کی پوری کوشش کی۔ اُس پیشگوئی کا خلاصہ یہ ہے کہ ۱۹۱۹ء کو فلاں فلاں ستارے اور سورج قرآن میں ہوں گے۔ ستارے اپنی کوشش سے سورج کو زخمی کر دیں گے جس کے باعث اُس روز سخت طوفان اور زلزلے آئیں گے اور زمین ایسی ڈاؤن ڈاؤن ہوگی کہ کئی ہفتوں میں اپنی اصلی حالت پر آنے کے قابل ہو سکے گی۔ اس ہولناک پیشگوئی نے دنیا میں عموماً اور ہندوستان میں خاص طور پر ایک ہلکے مچا دیا تھا۔

امام احمد رضا خاں بریلوی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے پروفیسر البرٹ کے دلائل کا جائزہ لیا۔ موصوف کے دلائل کو محض ایک عقلی ڈھکوسلا ثابت کیا۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں البرٹ کے دعویٰ کا رد کیا، علم نجوم، ہیئت اور زیجات کے تحت موصوف کے بیانات و مزعومہ دلائل کو تار عنکبوت سے مزدنا بت کر دکھایا۔ آپ کا یہ حیرت انگیز تجربہ مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہوا تاکہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان اُس پیشگوئی پر یقین کر کے اپنے خیالات کو متزلزل نہ کر سکیں۔ آپ کی اُس حیرت انگیز تحریر کا خلاصہ جیاتِ اعلیٰ حضرت میں صفحہ ۹۵ تا ۹۷ اور سوانح اعلیٰ حضرت میں صفحہ ۷۵ تا ۷۹ موجود ہے۔ ان علوم سے دلچسپی رکھنے والے حضرات مذکورہ کتب کی طرف رجوع کر کے بعض دلائل ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ کو اتنے علوم و فنون میں جو کمال حاصل ہوا، اُس کا بہت کم حصہ کسی اور اکثر و بیشتر وہی ہے۔ یہ امر ہر اس ذی علم سے پوشیدہ نہیں جس کی فاضل بریلوی کے حالات زندگی اور آپ کی تصانیف پر نظر ہے۔ جملہ بزرگانِ دین کے حالات اس امر کی واضح شہادت ہیں کہ جس طرح وہ حضرات دینِ مبین کی حمایت اور اعلیٰ کلمۃ الحق کی خدمات سر انجام دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو تائیدِ ربانی اور عنایتِ مصطفوی نے ہمیشہ اُن کی دستگیری اور سرپرستی فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اُن بزرگوں نے اس راہ کی دشوار گزار ترین گھاٹیوں اور سخت سے سخت مراحل کو پورے عزم و استقلال سے خندہ پیشانی کے ساتھ عبور کیا اور منزلِ مقصود پر پہنچنے سے اُنھیں کوئی دشواری نہ روک سکی۔ آپ کے زمانہ میں فرقہ بازی کا جس طرح فتنہ اُٹھا، لصوص دین نے اصلاح کے نام پر جس طرح بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، کتنے ہی صاحبانِ حجتہ و دستار نے اہل اسلام کو ایمان سے کورے رکھنے کی

مم چلائی، اُن سب کے مقابلے میں آپ کا میدان میں کودنا، چوکھی لڑائی لڑنا، عظمتِ خداوندی و شانِ مصطفوی کا دفاع کرنا، اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں جملہ مبتدعین کو عاجز کر دکھانا، یہ نائیدر باتیں اور عنایتِ مصطفوی ہی کا کرشمہ ہے۔

آپ نے مقدس شجرِ اسلام میں غیر اسلامی عقاید و نظریات کی پیوند کاری کرنے والوں سے قلمی جہاد کیا نیز علمائے سنی اور علمائے سنیوں میں سچان کراتی۔ ایسے مصلحین کے تعقب میں آپ ہمیشہ سرگرم عمل رہے جو نئے نئے فرقے بنا کر مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر رہے تھے اور بات بات پر مسلمانوں کو مشرک، کافر اور بدعتی ٹھہرانے کو دین کی خدمت سمجھتے تھے۔ فاضل بریلوی نے ایسے حضرات کے جملہ مزعموں لائل کے تار پود پھیر کر رکھ دئے اور مجددانہ شان کے ساتھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دکھایا۔

خائقِ کائنات کی صفات کو جب علمائے سنی نے اپنے غلط عقلی پیمانوں سے پانا شروع کر دیا، خود ساختہ توحید کی تبلیغ کرنے لگے، سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالِ عالیہ کی ایسی حدود متعین کرنے لگ گئے جس کی کوئی مسلمان ہرگز جسارت نہیں کر سکتا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر آپ نے عظمتِ خداوندی اور شانِ مصطفوی کا علم بند کیا تھا۔ ایسا کرنے والوں کو سچایا بھجایا، خوفِ خدا اور خطرہ روز جزا یاد دلایا، جب وہ کسی طرح باز نہ آئے اور برٹش گورنمنٹ کے ہاتھوں میں کھٹ پتلی بن کر اپنی مخصوص ڈگر پر رہی چلنے رہے تو آپ بھی اسلام اور مسلمین کی خیر خواہی میں آخری وقت تک اُن کا ردِ تبلیغ کرتے رہے۔ یہی آپ کا وہ جرم ہے جس کی پاداش میں عمر سبب و شتم کا نشانہ بنتے رہے اور آج تک اُن مبتدعین کی معنوی ذریت آپ کے خلاف اتنا زہرا گل رہی ہے، جس کا عشرِ عشیر بھی ان ہانکے موحدین کو کافروں اور مشرکوں کے خلاف بولنا نصیب نہیں ہوا۔

اگر آپ فرقِ باطلہ کے علمبرداروں کو نہ ٹوکتے، اسلامی عقاید و نظریات کی من مانی تعبیریں کرنے والوں کا محاسبہ نہ کرتے تو تمام فرقوں کے نامور علماء بھی اس عبقری اسلام اور نابغہ عصر کی علمی عظمت و جلالت کو بر ملا تسلیم کر لیتے لیکن دین کے محافظوں نے تحسین و آفرین کی خاطر ایسی سودا بازی کبھی نہیں کی۔ آپ عظمتِ خداوندی و ناموسِ مصطفوی کے نگہبان اور

اسلام کے پاسبان تھے، اسی لیے طعن و تشنیع اور تحسین و آفرین سے بے نیاز ہو کر، ہر حالت میں اپنا فرض ادا کرتے رہے۔

کسی بیدار جماعت میں اگر اس مرتبے کا کوئی عالم پیدا ہو جاتا تو وہ لوگ اُس کے علوم و فنون سے نہ صرف خود مستفید ہوتے بلکہ پوری دنیا کو اُس کے افکار و نظریات پڑھنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیتے لیکن مسلمانانِ اہلسنت و جماعت اور خصوصاً علمائے اہلسنت کی بیداری کی داد کون دے سکتا ہے جبکہ اس نابغہ عصر کے علمی کارناموں اور تحقیقی جواہر ریزوں کو کما حقہ محفوظ بھی نہیں کیا اور نہ بیگانوں اور بیگانوں کو اپنے اس مومن کی علمی عظمت سے آشنا کرانے کی خاص زحمت ہی گوارا فرماتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اعلیٰ حضرت کا نام زندہ ہے تو صرف اُن کے عظیم اور جاندار علمی کارناموں کی وجہ سے زندہ ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا نام قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا کیونکہ :

ہرگز نمبر دہ آئندہ دیش زندہ شد لعشقت

ثبت است جبریدۃ عالم دوم ما

وفات سے کئی ماہ پیشتر آپ نے کوہِ جہولی پر ۳۰ رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ کو اپنے

وصال کی تاریخ اس آیت کریمہ سے نکالی: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بَيْنَيْتَ مَيْمَنٍ فِصَّةٍ ذَاكُوَابِۙ
یعنی خدام چاندی کے برتن اور آبخورے لے کر (جنت میں) اُن کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس شہیدِ محبت نے اپنا مشن پورا کر کے جمعۃ المبارک کے روز ۲۵ صفر المظفر ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء کو دوبارہ اڑتیس منٹ پر، عین اذانِ جمعہ کے وقت سنی علی الغلام کا نعمتاً لفظاً سن کر داعی اجل کو لبیک کہا اور اس جہانِ فانی سے عالم جاودانی کی طرف سدھار گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ۝

وصال سے دو گھنٹے پہلے تجویز تکفین اور بعض ضروری امور کے متعلق وصایا شریفی قلمبند کراتے جو چودہ اہم نکات پر مشتمل ہیں۔ حضرت محدث کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو مشد نے اعلیٰ حضرت کے وصال کی خیر سن کر فرمایا: "بِحسنة اللہ تعالیٰ علیہ" دیکھا گیا کہ اس میں وصال کی تاریخ بھی ہے۔ خود حضرت محدث کچھوچھوی علیہ الرحمہ نے تاریخِ وفات

”امام الہدای عبد المصطفیٰ احمد رضا“ نکالی تھی۔

۲۱۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے فیضیاب ہوئے خواہے خوش قسمت حضرات کی فہرست تو بڑی طویل ہے ذیل میں آپ کے چند ناموں خلفاء کی فہرست پیش کی جاتی ہے:

- ۱۔ حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں، خلفت اکبر (المتوفی ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء)
- ۲۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں، خلفت اصغر و ظہ العالی درونق افروز بریلی شریف ہیں
- ۳۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی برکاتی مصنف ”بہار شریعت“ (المتوفی ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۸ء)
- ۴۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی مصنف ”خزائن العرفان“ (المتوفی ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۸ء)
- ۵۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری مصنف ”حیات اعلیٰ حضرت“ (المتوفی ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء)
- ۶۔ محدث اعظم مولانا شاہ احمد شرف جیلانی کچھوچھوی (المتوفی ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۵ء)
- ۷۔ شیخ الحدیث مولانا سید دیدار علی الوری بانی ”حزب الاحناف“ لاہور (المتوفی ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء)
- ۸۔ مبلغ اسلام مولانا شاہ عبد العظیم صدیقی میرٹھی (المتوفی ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۲ء)
- ۹۔ حضرت مولانا عبدالسلام جبل پوری (المتوفی ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء)
- ۱۰۔ سلطان الواعظین مولانا عبد الاحدی بھینٹی (المتوفی ۱۳۴۸ھ/۱۹۲۹ء)
- ۱۱۔ مولانا حاجی لعل محمد خاں مدراسی
- ۱۲۔ مولانا محمد شفیع احمد بیلپوری
- ۱۳۔ مولانا حسین رضا خاں بریلوی
- ۱۴۔ مفتی سسی - پٹی۔ مولانا برہان الحق جبلپوری
- ۱۵۔ مولانا رحیم بخش آردی شاہ آبادی
- ۱۶۔ مولانا احمد مختار صدیقی میرٹھی
- ۱۷۔ مولانا محمد شریف سیالکوٹی (کوٹلی لوہاراں)
- ۱۸۔ مولانا امام الدین سیالکوٹی (کوٹلی لوہاراں)
- ۱۹۔ مولانا عمر بن ابوبکر کھتری، ساکن شہر پور بند
- ۲۰۔ مولانا فتح علی شاہ پنجابی (کھوڑہ ستیان)

- ۲۱۔ مولانا سید سلیمان اشرف بہاری
- ۲۲۔ مولانا مفتی غلام جان نر اودی
- ۲۳۔ مولانا ضیاء الدین احمد مہاجر مدنی مظہر العالی
- ۲۴۔ مولانا ابوالبرکات سید شاہ مظہر العالی (ناظم اعلیٰ حزب الاحناف۔ لاہور)
- ۲۵۔ مولانا سید علی اکبر شاہ علی پوری
- ۲۶۔ مولانا سید محمد عزیز غوث (المتوفی ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۳ء)
- ۲۷۔ مولانا محمد ابراہیم رضا خاں عرف جیلانی میاں
- ۲۸۔ مولانا سید غلام جان، جام جوڈھپوری
- ۲۹۔ علامہ ابوالفیض قلندری علی سہروردی لاہوری (المتوفی ۱۳۷۸ھ/۱۹۵۸ء)
- ۳۰۔ مولانا احمد حسین امر وہوی
- ۳۱۔ مولانا عمر الدین نر اودی
- ۳۲۔ مولانا شاہ محمد حبیب اللہ قادری میرٹھی
- ۳۳۔ شیخ محمد عبدالحی بن سید عبدالبکیر محدث (المتوفی ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳ء)
- ۳۴۔ مفتی احناف وقاضی مکہ مکرمہ، شیخ صالح کمال (المتوفی ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء)
- ۳۵۔ محافظ کتب حرم، سید اسماعیل بن سید خلیل مکی (المتوفی ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء)
- ۳۶۔ سید مصطفیٰ بن سید خلیل مکی (المتوفی ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء)
- ۳۷۔ شیخ عابد بن حسین مفتی مالکی مکی
- ۳۸۔ شیخ علی بن حسین مالکی مکی
- ۳۹۔ شیخ عبداللہ بن شیخ ابی الخیر مراد
- ۴۰۔ شیخ ابوحسین مرزوقی
- ۴۱۔ شیخ مامون البری المدنی
- ۴۲۔ شیخ اسعد ربان
- ۴۳۔ شیخ عبدالرحمن

۴۳- شیخ جمال بن محمد الامیر

۴۴- شیخ عبداللہ دحلان

۴۵- شیخ بکر رفیع

۴۶- شیخ حسن العجمی

۴۷- شیخ الدلال سید محمد سعید

۴۸- شیخ عمر المحروسی

۴۹- شیخ عمر بن حمدان

۵۰- شیخ احمد نصر اوی مکتی

۵۱- شیخ المشائخ احمد بن ابی النخیر مرداد

۵۲- سید سالم بن عیدروس

۵۳- سید علوی بن حسن

۵۴- سید ابوبکر بن سالم

۵۵- شیخ محمد بن عثمان دحلان

۵۶- شیخ محمد یوسف

۵۷- شیخ عبدالقادر کردی (المتوفی ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء)

۵۸- شیخ محمد بن سید ابوبکر الرشیدی

۵۹- شیخ محمد سعید بن سید محمد مغربی

۶۰- شیخ عبداللہ فرید (المتوفی ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۶ء)

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِنَّ

۷

وے ہستیاں الہی کس دسیں بستیاں ہیں

اب دیکھئے کوجن کے سیکھیں تزیستیاں ہیں

سیرتِ مجدد

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
درباؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طفلان

امام احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ جس طرح اپنے دور میں مرکز دائرہ علوم و فنون تھے۔ اسی طرح مسرت جام بادۃ الفت ہونے میں منصف اور محبوب پروردگار، احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیدائیوں میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کا عشق رسول ایک پگھلتی ہوئی شمع ہونا مشہورِ خلافت ہے جس کا معتقدین و مخالفین سب کو اعتراف ہے۔ میدانِ عمل میں محبت کا اظہار چار طرح ہوتا ہے:

- ۱- محبوب کے فراق میں تڑپنا، وصل کو منزل مقصود سمجھنا اور اس کے ذکر و فکر میں مستغرق رہنا۔
- ۲- محبوب کے یاروں اور پیاروں کا دلی محبت سے ادب و احترام کرنا۔
- ۳- محبوب کے ہر قول و فعل کو محبوب سمجھ کر اپنا دستور العمل بنا لے رکھنا۔
- ۴- محبوب کے دشمنوں سے دلی نفرت رکھنا۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی سیرت کا مرکز و محور، صرف اور صرف جذبہ عشق رسول تھا۔ اگر مجددانہ حاضرہ کی سیرت کوئی چند لفظوں میں پوچھنا چاہے تو احقر بلا خوف تردد باعلی الاعلان کہتا ہے کہ: "اعلیٰ حضرت کی سیرت عشق رسول کے تقاضوں کا مجموعہ تھی" آپ کی جملہ تصانیف ہمارے اس دعویٰ کے روشن دلائل ہیں اور نعتیہ دیوان "حدائق بخشش" تو وہ منہ بولتا ثبوت ہے جس کی نظیر چشمِ فلک کہن نے کم ہی دیکھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی والہانہ محبت کے سلسلے میں یہاں بحث کرنا ننگار کا موجب اور باعث طالت ہوگا جبکہ دوسری کتاب کے اندر آپ کے نعتیہ کلام کا نمونہ موجود ہے نیز منصب رسالت کے تحت اس کتاب میں مختلف عنوانات پر آپ کی ننگارشات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ امام احمد رضا خاں بریلوی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

یاروں اور پیاروں کی کس قدر دلی محبت تھی اور کس درجہ آپ اُن کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اس امر کا بھی ایک عالم شاہد ہے کہ فاضل بریلوی جیسا انبیائے کرام و اولیائے عظام کے ننگ ناموس کا پاسبان اور تعظیم و توقیر کا علمبردار و دوسرا دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ بعض حضرات تو اپنی دُور بین نگاہوں سے دیکھ کر یہاں تک فرما گئے کہ اگر اس دورِ پرفتن میں امام احمد رضا حناں بریلوی پیدا نہ ہوتے تو مقررین بارگاہ الہیہ کے ادب و احترام کو وہاں بیت کی تشدد و تیز آندھی خس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے جاتی۔ چونکہ اس سلسلے میں کئی مسائل شامل مجبوراً ہیں لہذا زیادہ عرض کرنے کی یہاں حاجت نہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کے بارے میں مولانا بدر الدین احمد صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو موصوف کے الفاظ میں یوں ہے:

”چھ برس کی عمر میں آپ نے معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کدھر ہے، پھر اُس وقت سے آخر دم تک بغداد شریف کی جانب پاؤں نہیں پھیلائے، اعلیٰ حضرت کے نامور شاگرد و خلیفہ حضرت محدث کچھوچھو سید احمد شرف جیلانی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں ایک واقعہ یوں بیان کیا ہے:

”میں اُس سرکار میں کس قدر شوق نہا یا شوق بنا دیا گیا تھا، اپنا جواب اعلیٰ حضرت کی نشست کی چارپائی پر رکھ کر عرض کرنے لگا کہ حضور! کیا اس علم کا کوئی حصہ عطا نہ ہوگا، جس کا علمائے کرام میں نشان بھی نہیں ملتا۔ مسکرا کر فرمایا کہ میرے پاس علم کہاں، جو کسی کو دوں، یہ تو آپ کے جدِ امجد سرکار غوثیت کا فضل و کرم ہے اور کچھ نہیں۔

یہ جواب مجھ ننگ خاندان کے لیے تازیا نہ عبرت بھی تھا کہ ٹوٹنے والے لوٹ کر خزانہ والے ہو گئے اور میں ”پدرم سلطان بود“ کے نشہ میں پڑا رہا اور یہ جواب اس کا بھی نشان دیتا تھا کہ علمِ راسخ والے مقام تو اضع میں کیا ہو کر

اپنے کو کیا کہتے ہیں۔ یہ شوخی میں نے بار بار کی اور یہی جواب عطا ہوتا رہا اور ہر مرتبہ میں ایسا ہو گیا کہ میرے وجود کے سارے گل پُرزے معطل ہو گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت محدث کچھوچھو ایک دوسرا واقعہ اور بیان فرماتے ہیں، جو موصوف کے تبصرے کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں:

”دو سو دن کارافنا سر پر (محدث صاحب کو) لگانے سے پہلے، خود گیارہ روپے کی شیرینی منگائی، اپنے پلنگ پر مجھ کو بٹھا کر اور شیرینی رکھ کر، فاتحہ غوثیہ پڑھ کر، دستِ کرم سے شیرینی مجھ کو بھی عطا فرمائی اور حاضرین میں تقسیم کا حکم دیا کہ اچانک اعلیٰ حضرت پلنگ سے اٹھ پڑے۔ سب حاضرین کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا کہ شاید کسی شدید حاجت سے اندر تشریف لے جائیں گے۔ لیکن

حیرت بالائے حیرت یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت زمین پر اُگڑوں بیٹھ گئے۔ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھا تو یہ دیکھا کہ تقسیم کرنے والے کی غفلت سے شیرینی کا ایک ذرہ زمین پر گر گیا تھا اور اعلیٰ حضرت اُس ذرے کو نوکِ زبان سے اٹھ رہے ہیں اور پھر اپنی نشست گاہ پر بدستور تشریف فرما ہوئے۔ اس کو دیکھ کر سارے حاضرین سرکار غوثیت کی عظمت و محبت میں ڈوب گئے اور فاتحہ غوثیہ کی شیرینی کے ایک ایک ذرے کے تبرک ہو جانے میں کسی دوسری دلیل کی حاجت نہ رہ گئی اور اب میں نے سمجھا کہ بار بار مجھ سے جو فرمایا گیا کہ میں کچھ نہیں، یہ آپ کے جدِ امجد کا صدقہ ہے، وہ مجھے خاموش کر دینے کے لیے ہی نہ تھا اور نہ صرف مجھ کو شرم دلانا ہی تھی بلکہ درحقیقت اعلیٰ حضرت، غوثِ پاک کے ہاتھ میں ”چوں قلم در دستِ کاتب“ تھے، جس طرح غوثِ پاک، سرورِ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ”چوں قلم در دستِ کاتب“ تھے اور کون نہیں جانتا کہ رسولِ پاک اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے تھے کہ قرآنِ کیم

نے فرمایا: "وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْمَهْمَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ"۔ لہ

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد و اجماع یعنی حضرات سادات کرام کا امام احمد رضا خاں بریلوی کس درجہ ادب و احترام کرتے اور تعظیم و توقیر بجالاتے، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ملاحظہ ہو:

"کسی روز ایک سید صاحب نے زنان خانے کے دروازے پر آکر آزدی: "دلاؤ سید کو"۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی آمدنی سے اخراجات اور دینیہ کے لیے دو سو روپے ماہوار مقرر فرماتے تھے۔ اُس ماہ کی رقم اُسی روز آپ کو ملی تھی۔ سید صاحب کی آواز سنتے ہی فوراً وہ روپوں والا آفس بکس لے کر دوڑے اور سید صاحب کے سامنے پیش کر کے فرمایا: "حضور! یہ نذرانہ حاضر ہے"۔ سید صاحب کافی دیر تک اس رقم کو دیکھتے رہے اور پھر ایک چوٹی اٹھا کر فرمایا: "بس لے جائیے"۔ اعلیٰ حضرت نے خادم سے فرمایا کہ جب ان سید صاحب کو دیکھو تو فوراً ایک چوٹی ان کی نذر کر دیا کرنا تاکہ انہیں سوال کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے"۔ لہ

سہ میں اک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگ رکھا
تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے

اسی سلسلے میں ایک دوسرا ایمان آفرین واقعہ ملاحظہ فرمائیے، جو درس ادب کا آئینہ ہے:

"ایک دفعہ بعد نماز جمعہ اعلیٰ حضرت چھاٹک میں تشریف فرماتھے کہ شیخ امام علی قادری رضوی (ماکھ ہول آئس کریم بمبئی) کے چھوٹے بھائی (مولوی نور محمد صاحب جو ان دنوں ریلی شریف میں پڑھتے تھے) کے قناعت علی، قناعت علی پکارنے کی آواز آئی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے انہیں بلوایا اور فرمایا کہ: عزیزم!

سید صاحب کو اس طرح پکارتے ہو، مولوی نور محمد صاحب نے ندامت سے نظریں جھکا لیں۔ آپ نے فرمایا: سادات کی تعظیم کا آئندہ خیال رکھیے اور جس عالی گھرانے کے یہ افراد ہیں اُس کی عظمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے۔ اس کے بعد حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سادات کا اس درجہ احترام ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قناعتی اگر کسی سید پر حد لگاتے تو یہ خیال تک نہ کرے کہ میں اسے سزا دے رہا ہوں بلکہ یوں تصور کرے کہ شاہزادے کے پیروں میں کیوٹ بھر گئی ہے اُسے دھورہا ہوں"۔ الخ لہ

سہ تیری نسل پاک میں ہے بچپہ بچہ نور کا
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا

سادات کے اعزاز و کرام کے متعلق ایک سبق آموز واقعہ اور اعلیٰ حضرت کا معمول ملاحظہ ہو: "اعلیٰ حضرت کے ہاں دستور تھا کہ میلاد شریف کے موقع پر سید حضرات کو آپ کے حکم سے دو گنا حصہ ملا کرتا تھا۔ ایک دفعہ سید محمود جان صاحب کو تقسیم کرنے والے کی غلطی سے اکہر حصہ ملا۔ اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا تو فوراً تقسیم کرنے والے کو بلوایا اور اُس سے ایک خوان تیسیر بنی کا بھرا کر منگوایا، پھر معذرت چاہتے ہوئے سید صاحب موصوف کی تدریکاً اور تقسیم کرنے والے کو ہدایت کی کہ آئندہ ایسی غلطی کا اعادہ نہ ہو کیونکہ ہمارا کیا ہے؟ سب کچھ ان حضرات کے ہی عالی گھرانے کی بھیک ہے"۔ الخ لہ

اسی لیے تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض پرداز ہوا کرتے تھے: سہ

آسماں خواں، زمیں خواں، زمانہ مہمان
صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا

اس دورِ رفتن میں جبکہ شانِ رسالت میں لوگ گستاخ اور جبری ہو گئے، بعض تو دہابیت کی نحوست کے زیر اثر گزر کر بھر کی زبان نکال کر منصبِ نبوت پر اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یا الہی ایک یا یہ ایک اُمّتی کہلانے والے کے الفاظ ہیں؟ کیا اس نے مسلمان کہلانے کے مجملہ حقوق محفوظ رکھے ہیں؟ یہ توحید کے علمبردار ہیں یا توہینِ شانِ رسالت کے ٹھیکیدار؟ اس کے برعکس امامِ اہلسنت کا معمول ملاحظہ ہو کہ سادہ عظام کے بچوں کا بھی کتنا ادب و احترام ملحوظ رکھا جاتا تھا:

”سید ایوب علی رضوی کا بیان ہے کہ ایک نو عمر سید لڑکا کا مورخانہ داری میں امداد کے لیے اعلیٰ حضرت کے گھر ملازم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا کہ نیا ملازم تو سید زادہ ہے۔ آپ نے تمام اہل خانہ کو تاکید کی کہ خبردار! اس سید لڑکے سے کوئی کام مطلقاً نہ لیا جائے، کیونکہ یہ مخدوم زادہ ہیں، بلکہ ان کی خاطر تو اضع میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ ان کی حسبِ منتاسر ہر چیز خدمت میں پیش کرنے رہنا، ہر ضمیمہ صاحب زادے کو چورا پورا آرام پہنچایا جاتے۔ تنخواہ جو مقرر کی ہے وہ حسبِ وعدہ دیتے رہنا لیکن تنخواہ سمجھ کر نہیں بلکہ بطور نذرانہ پیش ہونا رہے گا الخ لہ

۵ میں خانہ زاد کہند ہوں، صورت لکھی ہوئی

بندوں کینزد میں مرے مادر پدر کی ہے

علمائے اہلسنت، حجاج کرام اور سنی حضرات کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا برتاؤ کس قسم کا ہوتا تھا، اس سلسلے میں مولانا بدر الدین احمد مدظلہ نے یوں وضاحت کی ہے:

”أَشِدُّ أَوْ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا ۖ بَيْنَهُمْ كَمَثَلِ الْفَرَسِ وَالْحِمْلِ ۖ قَدْرُ كَأَفْوَىٰ ۖ مَرْتَدُونَ، لمجدوں اور بے دینوں پر سخت تھے یونہی سنی مسلمانوں اور علمائے حق کے لیے ابرکرم تھے۔ جب کسی سنی عالم سے ملاقات ہوتی، دیکھ کر

باغ باغ ہو جاتے اور اُس کی ایسی عزت و قدر کرتے جس کے لائق وہ اپنے گھر نہ سمجھتا۔ جب کوئی صاحبِ حج بیت اللہ شریف کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان سے پہلے یہی پوچھتے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ بیکس پناہ میں بھی حاضری دی، اگر وہ ہاں کہتے تو فوراً ان کے قدم چوم لینے اور اگر کہتے کہ نہیں تو پھر ان کی جانب بالکل توجہ نہ فرماتے، لہ

امام احمد رضا خاں بریلوی کو اگر تیسرے میدان میں دیکھا جاتے تو صاف نظر آتے گا کہ سنتِ رسول کے آپ حد درجہ متبع اور محبوب کی رضا جوئی میں ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ عرب و عجم کے ممتاز اہل علم اور باکمال حضرات نے بھی تسلیم کیا ہے کہ فاضل بریلوی قدس سرہ جیسا ماحی سنت اور قاطع بدعت اُس دور میں کوئی دیکھا نہیں گیا۔ اتباعِ سنت آپ کی فطرتِ ثانیہ بن گیا تھا۔ یہ حالات کی ستم ظریفی ہے کہ مبتدعین زمانہ جن کی جماعتیں تک بدعت اور برائش گورنمنٹ کے عہد کی زندہ یادگار ہیں اور جو کفر یہ بدعات تک کے ترکیب و معتقد ہیں وہ فاضل بریلوی جیسے تابع سنت اور دشمن بدعت پر نہ صرف بدعتی بلکہ سرچشمہ بدعات ہونے کا الزام لگا کر حقیقتِ حال سے بے خبر مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اس طرح اپنے اکابر کی بے راہروی پر پردہ ڈالنے کی غرض سے کیسے کیسے بزرگوں پر ہنسان بازی اور الزام تراشی کا بازار گرم کیے رکھتے ہیں۔ ذیل میں اعلیٰ حضرت کے انتہامِ شریعت و اتباعِ سنت کے چند واقعات اور آپ کے معمولات پیش کیے جاتے ہیں۔

اقامتِ صلوة: اس سلسلے میں سید ایوب علی رضوی کا بیان ملاحظہ ہو:

”اعلیٰ حضرت تندرست ہوں یا بیمار، پانچوں وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے شوگر تھے اور اپنے مریدوں کو بھی ہمیشہ اس امر کی خاص ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ جماعت کا مقررہ وقت ہو جانے پر کسی کا انتظار نہ کرتے تھے موسم گرما میں نماز درادیر کر کے پڑھتے لیکن ایسا نہیں کہ مکروہ وقت آجائے

نماز ادا کرتے وقت رکوع، سجود، قومہ، قعدہ اور جلسہ وغیرہ کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ حروف کو اُن کے مخارج سے صفات لازمہ و محسنہ کے ساتھ ادا کرنے میں بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے۔

ایک دفعہ کوئی صاحب ظہر کی چار سنتیں پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے اُن کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ آپ کی ایک رکعت بھی نہیں ہوئی۔ کیونکہ سجدہ کرتے وقت آپ کی ناک زمین سے علیحدہ رہی نیز یہیوں کی انگلیوں میں سے کسی ایک کا پیٹ زمین سے نہیں لگا تھا کہ کم از کم فرض تو ادا ہو جاتا، واجباً وسنن و مستحبات تو علیحدہ رہے۔ آپ سنتیں پھر پڑھیے اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ ناک کی پڑی، جس کو بانساکتے ہیں (اپنی ناک پر انگلی رکھ کر بتایا) یہ اور یہیوں کی کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا رہنا چاہیے ورنہ اگر کوئی شخص نوح علیہ السلام کی برابر بھی عمر پاتے اور اسی طرح نمازیں پڑھتا رہتے گا، تو یاد رکھیے کہ وہ سب اکارت ہی جاتیں گی۔

میں نے اعلیٰ حضرت کو اکثر اوقات سفید لباس میں ہی ملبوس دیکھا تھا۔ پاجامہ بڑے پانچھ کا پہنتے تھے نماز کے وقت ہمیشہ پگڑی سر پر رکھتے تھے اور فرض تو بغیر پگڑی کے کبھی ادا نہیں کیے۔ ایک دفعہ عشرہ محرم الحرام کے دنوں میں ایک صاحب بعد نماز جمعہ اعلیٰ حضرت کے پھانک میں تشریف فرما تھے۔ اُن کے سر پر سیاہ ٹوپی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اُنہیں دیکھا تو اپنے دولت خانہ سے سفید ٹوپی منگو کر اُن کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے اوڑھ لیجیے اور سیاہ ٹوپی اتار دیجیے کہ اس میں عود ادا روں سے مشابہت کا شبہ ہے۔ ایک ولی کامل اور مجتہد وقت کی ٹوپی ملنے پر حاضرین کو اُن صاحب کے مقدر پر زشک آ رہا تھا۔

ایک دفعہ اعلیٰ حضرت سخت بیمار تھے۔ نشست و برخاست کی بالکل طاقت نہ تھی۔ اس کے باوجود فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے۔

انتظام یہ تھا کہ کرسی میں لکڑی باندھ کر چار آدمی آپ کو مسجد میں لے جاتے اور بعد نماز دولت خانہ میں پہنچا دیتے۔ بارہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نازک حالت میں بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے، طاقت نہ دیکھتے ہوئے مجبوراً بلیٹھ کر پڑھنی پڑتی، لیکن ایسی حالت میں بھی دونوں پیروں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانے کی سجدہ سچی فرماتے۔ مخلصاً لے

احترام مساجد: مہر مسجد خدا کا گھر، عبادت کا مقام اور شعائر اللہ میں شامل ہے۔ شعائر اللہ کا احترام تقویٰ کی نشانی ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی مسجد کے چھوٹے چھوٹے آداب کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی مرحوم نے بعض چشم دید حالات یوں بیان کیے ہیں:

”نماز جمعہ کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تشریف لاتے تو فرش مسجد پر قدم رکھتے ہی تقدیم سلام فرماتے۔ اسی طرح مسجد کے جس درجہ میں درود ہوتا جاتا آپ سلام کی تقدیم کرتے۔ اس بات کی بھی آنکھیں شاہد ہیں کہ مسجد کے ہر درجہ میں وسطی در سے داخل ہوا کرتے خواہ اس پاس کے دروں سے داخل ہونے میں سہولت ہی کیوں نہ ہو۔ نیز بعض اوقات اوراد و وظائف مسجد میں ہی بجالت خرام شمالاً جنوباً پڑھا کرتے مگر منہ ماتے فرش مسجد سے واپس ہمیشہ قبلہ رو ہو کر ہی ہوتے، قبلہ کی طرف پشت کرتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا“ لے

مسجد کے آداب میں داخل ہے کہ اندر داخل ہونے وقت دایاں قدم رکھا جائے اور مسجد سے جاتے وقت پہلے دایاں قدم باہر رکھنا چاہیے۔ سید ایوب علی رضوی کی زبانی امام اہلسنت کا عمل ملاحظہ فرمائیے:

”ایک دفعہ فریضہ فجاہد ادا کرنے میں خلاف معمول کسی قدر دیر ہوگئی۔ نمازیوں کی نظرں بار بار کا نشانہ اقدس کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ اسی اثناء میں آپ جلدی جلدی تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اُس وقت برادر م سید قناعت علی لے

اپنا بی خیال مجھ پر ظاہر کیا کہ اس تنگ وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت دایاں قدم مسجد میں پہلے رکھتے ہیں یا بایاں؛ لیکن قربان جائیں اس عاشق رسول اور تابع سنت کے، کہ دروازہ مسجد کے زینے پر جس وقت قدم مبارک رکھا تو دایاں، تو سبھی فرش مسجد پر قدم پہلے رکھا تو دایاں، قدیمی فرش مسجد پر بھی دایاں قدم پہلے رکھا، یونہی ہر صفت پر تقدیم دایاں قدم ہی سے فرمائی، حتیٰ کہ محراب میں مصلے پر دایاں قدم ہی پہلے پہنچا، اے

آداب مسجد کے سلسلے میں سید ابوب علی رضوی کا ایک چشم دید واقعہ اور ملاحظہ فرمائیے:

" ایک صاحب جنھیں نواب صاحب کہا جاتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بلے پروائی سے اپنی چھڑی مسجد کے فرش پر گرا دی، جس کی آواز حاضرین مسجد نے سنی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنے زور سے ڈالنا، نواب صاحب نے میرے سامنے عہد کیا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اے

شعائر اللہ کی تعظیم و توقیر قرآنی اصطلاح میں ولی تقویٰ کی نشانی ہے۔ آیتے دیکھیں تو سہی کہ مجدد مآثر حاضرہ قدس سرہ مسجد کا ادب و احترام کہاں تک ملحوظ رکھتے تھے۔ علامہ نضر الدین بہاری علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں:

" ایک مرتبہ سیدی امام احمد رضا خان مسجد میں متکلف تھے۔ سردی کا موسم تھا اور دیر سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ حضرت کو نماز عشاء کے لیے وضو کرنے کی فکر ہوئی۔ پانی تو موجود تھا لیکن بارش سے بچاؤ کی کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں وضو کر لیا جاتا، کیونکہ مسجد میں مستعمل پانی کا ایک قطرہ تک گرانا بھی جائز نہیں ہے آخر کار مجبور ہو کر مسجد کے اندر ہی لحاف اور گدے کی چارتر کر کے اُن پر وضو

کر لیا اور ایک قطرہ تک فرش مسجد پر گرنے نہیں دیا۔ سردیوں کی رات، جس میں طوفان باد و باران کے اضافات، مگر خود اتنی سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے رات گزارنی منظر کی لیکن ایسی دشواری میں بھی مسجد کی اتنی سہی بے محرمی بڑاشت نہ کی، اے

کیا اس درجہ مسجد کا احترام ملحوظ رکھنے والا کوئی شخص آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ عام طور پر تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ دینی تربیت گاہوں کے طلبہ اور اساتذہ تک بعض اوقات جماعت میں شامل ہونے کی خاطر، رکعت جاتی ہوئی دیکھ کر بھاگ دوڑ بھی لیتے ہیں اور اعضائے وضو کو پونچھے بغیر مسجد کے فرش پر چل پھر لیتے ہیں حالانکہ اس طرح مسجد کی صفیں مستعمل پانی سے گیلی ہوتی ہیں، وضو کرنے کے بعد پانی کے قطرے تک مسجد میں ٹپکتے رہتے ہیں، جبکہ یہ امور احترام مسجد کے خلاف ہیں۔ کاش! امام اہلسنت کے معمولات سے مسلمان سبق حاصل کریں۔ نابالغ بہشتی: معتین حضرات توجہ نہیں فرماتے اور نابالغ شاگردوں سے بغیر اُن کے والدین کی اجازت کے خدمت لیتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سید رضا علی صاحب کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیے:

" اعلیٰ حضرت کی زندگی میں احترام مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ حضرت کی مسجد کے کنوئیں پر ایک نابالغ بہشتی (سقہ) پانی بھر رہا تھا۔ میں نے جب لڑکے سے وضو کھلیے پانی مانگا تو اُس نے جواب دیا: "مجھے پانی دینے میں کوئی عذر نہیں ہے لیکن بڑے مولوی صاحب (یعنی اعلیٰ حضرت) نے مجھے کسی بھی نمازی کو پانی دینے سے منع فرما دیا ہے اور بتایا ہے کہ جو وضو کے لیے پانی مانگے اُس سے صاف صاف کہہ دینا کہ میرے بھرے ہوئے پانی سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں نابالغ ہوں۔ اے مفتی اگر مولانا سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بانی حزب الاحناف لاہور کے ساتھ بھی

ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جب وہ پہلی یا دوسری دفعہ بریلی شریف حاضر ہوئے تھے۔ واقعہ یہ ہے:

”مولوی محمد حسین صاحب میرٹھی موربدلہسی پریس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا دیدار علی صاحب الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے، جماعت کا وقت تھا، مسجد کے کنوئیں پر ایک بہشتی کا لڑکا پانی بھر رہا تھا، جلدی کی وجہ سے اسی لڑکے سے پانی طلب فرمایا۔ اُس نے کہا کہ مولانا! میرے بھرے ہوئے پانی سے آپ کو وضو کرنا جائز نہیں اور نہیں دیا۔ مولانا کو غصہ آیا اور فرمایا کہ ہم جب تجھ سے لے رہے ہیں تو کنوئیں جائز نہیں؟ اُس نے کہا کہ مجھے دینے کا اختیار نہیں، میں نابالغ ہوں۔ مولانا کو اور غصہ آیا، جماعت ہو رہی ہے اور یہاں اور دیر لگ رہی ہے۔ فرمایا: آخر تو جہاں جہاں پانی دیتا ہے اُن کا وضو کیسے ہو جاتا ہے؟ اُس نے کہا، وہ لوگ تو مجھ سے مول لیتے ہیں۔ اور غصہ آیا مگر اُس نے نہیں دیا۔ آخر کار خود بھرا اور جلدی جلدی وضو کر کے نماز میں شریک ہوئے۔ جب غصہ کم ہوا اور سلام پھیرا تو خیال آیا کہ وہ بہشتی کا لڑکا از روئے فقہ صحیح کہتا تھا۔ دیدار علی اتم سے تو اعلیٰ حضرت کے یہاں کے خدمت گاروں کے بچے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ سب اعلیٰ حضرت کے اتباع شریعت کا فیض ہے۔“ لہ

والدہ کی رضا جوئی: ارشاد خداوندی کے معلوم نہ ہوگا کہ والدین کے سامنے اُن بھی نہ کرو۔ فرمانِ مصطفوی ہے کہ جنت تمھاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یعنی اُن کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ علی اور زبانی میدان میں بڑا فرق ہے۔ آئیے ذرا امام احمد رضا خاں کا طرزِ عمل دیکھیں۔ منقول ہے:

”حضرت شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب کا بیان ہے کہ جب مولانا (اعلیٰ حضرت) کے والد ماجد مولانا تقی علی خاں صاحب (المتوفی ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء) کا انتقال ہوا۔

اعلیٰ حضرت اپنے حضورِ جاہلاد کے خود مالک تھے مگر سب اختیار والدہ ماجدہ کے سپرد تھا، وہ پوری مالکہ و متصرف تھیں، جس طرح چاہتیں صرف کرتیں۔ جب مولانا کو کتابوں کی خریداری کے لیے کسی غیر معمولی رقم کی ضرورت پڑتی تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں درخواست کرتے اور اپنی ضرورت بتاتے۔ وہ اجازت دیتیں اور درخواست منظور کرتیں تو تمنا میں منگو اتے، لہ

غریبا پروری: امام الہند مولانا احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ خاندانی رئیس اور صاحبِ جاہلاد تھے۔ آپ نے یتیموں، بیواؤں اور دیگر غریبوں کے مساکین کے ماہوار وظیفہ مقرر کر رکھے تھے۔ ساتلوں اور ناداروں کے لیے آپ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ دُور دُور تک حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمایا کرتے۔ موسمِ سرما کے شروع میں ہمیشہ ناداروں میں رزائیاں تقسیم کرنا آپ کا معمول تھا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے:

”موسمِ سرما میں ایک مرتبہ تھے میاں صاحب (اعلیٰ حضرت کے برادرِ خورد، مولانا محمد رضا خاں صاحب) قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک فریاد پیش کی۔ اعلیٰ حضرت کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ سردیوں میں رزائیاں تیار کروا کر غریبوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اُس وقت تک سب رزائیاں تقسیم ہو چکی تھیں۔ ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت سے رزائی کی درخواست کی تو آپ نے مجھے میاں صاحب والی وہی فراد اپنے اوپر سے اتار کر اُسے عنایت فرمادی۔“ لہ

اسی سلسلے میں ایک واقعہ اور ملاحظہ فرمائیے:

”جناب ذکا اللہ خاں صاحب کا بیان ہے کہ سردی کا موسم تھا، بعد نماز مغرب اعلیٰ حضرت حسبِ معمول چائیک میں تشریف لاکر سب لوگوں کو رخصت کر رہے تھے خادم کو دیکھ کر فرمایا: آپ کے پاس رزائی نہیں ہے؟ میں خاموش ہو رہا۔

اُس وقت اعلیٰ حضرت جو رزائی اور طے ہوئے تھے وہ خادم کو دے کر فرمایا کہ اسے اوڑھ لیجیے۔ خادم نے بصداد بقدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور فرمان مبارک کی تعمیل کرتے ہوئے وہ رزائی اوڑھ لی۔

اسی سلسلے میں مزید ایک واقعہ اور پیش خدمت ہے جو مذکورہ بالا واقعے کے بعد پیش آیا: ”اس واقعے کے دو تین روز بعد اعلیٰ حضرت کے لیے نئی رزائی تیار ہو کر آگئی۔ اُسے اوڑھنے ہوتے ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک رات مسجد میں کوئی مسافر آیا جس نے اعلیٰ حضرت سے گزارش کی کہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے وہ نئی رزائی اُس مسافر کو عطا فرمادی۔“

امام احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کی سخاوت و غرباً پروری گرد و نواح میں مشہور تھی۔ اس بارے میں آپ کے سوانح نگار مولانا بدر الدین احمد مدظلہ کیوں رقمطراز ہیں: ”کاشانہ اقدس سے کوئی سائل خالی واپس نہ ہوتا۔ بیوگان کی امداد اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے آپ کی جانب سے ماہوار رقمیں مقرر تھیں اور یہ امداد صرف مقامی لوگوں کیلئے ہی تھی بلکہ بیرونجات میں بذریعہ منی آرڈر امدادی رقم روانہ فرمایا کرتے۔“

دور دراز کی امداد کے سلسلے میں ایک عجیب واقعہ پیش خدمت ہے:

”ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے ایک شخص نے پچاس روپے طلب کیے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے پاس اُس وقت ایک روپیہ بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت میں التجا کی کہ حضور! میں نے کچھ بندگان خدا کے جینے (ماہوار وظیفے) آپ کی عنایت کے بھروسے پر اپنے ذمے مقرر کر لیے ہیں اگر کل پچاس روپے کا منی آرڈر کر دیا گیا تو بروقت ہوائی ڈاک سے پہنچ جائیگا۔“

لے ظفر الدین بہاری، علامہ: حیات اعلیٰ حضرت، ص ۵۰

لے ایضاً: ص ۵۰

یہ رات آپ نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ علی الصبح ایک سیٹھ صاحب حاضر بارگاہ ہوئے اور مولوی حسنین رضا خاں صاحب کے ذریعے مبلغ اکاون روپے بطور نذرانہ عقیدت حاضر خدمت کیے جب مولوی صاحب موصوف نے اکاون روپے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں جا کر پیش کیے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور مذکورہ بالا ضرورت کا انکشاف فرمایا، ارشاد ہوا یہ یقیناً سرکاری عطیہ ہے۔ اس لیے کہ اکاون روپے کے کوئی معنی نہیں سوائے اس کے کہ پچاس پیچھے کے لیے فیس منی آرڈر بھی تو چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت منی آرڈر کا فارم بھرا گیا اور ڈاک کا کھلے ہی منی آرڈر روانہ کر دیا گیا۔“

امام احمد رضا خاں بریلوی کی سخاوت کا یہ سلسلہ ہر وقت جاری رہتا تھا ادھر آیا اور ادھر مصارف ضروریہ اور غرباء میں تقسیم ہو گیا۔ بعض اوقات تو حوائج ضروریہ کے لیے ایک پیسہ تک پلے نہیں رہتا تھا، حالانکہ صاحب جائداد اور خاندانی رئیس تھے۔ سخاوت کی انتہا معلوم کرنے کی غرض سے مجدد ماتہ حاضر قدس سرہ کے اذہن سوانح نگار اور آپ کے خلیفہ ارشد مکمل لعل، علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کاجیئت انگیز انکشاف ملاحظہ ہو:

”ایک مرتبہ ایسے ہی موقع پر تقسیم کرتے ہوئے فرمایا کہ کبھی میں نے ایک پیسہ زکوٰۃ کا نہیں دیا۔ اور یہ بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ زکوٰۃ فرض تو جب ہو کہ مقدار نصاب اُن کے پاس سال تمام تک رہے اور یہاں تو یہ حال تھا کہ ایک طرف سے آیا، دوسری طرف گیا۔“

امام اہلسنت نے اس عظیم الشان طریقے پر غرباء پروری کا کام جاری رکھا۔ جو کچھ حاصل ہوا، علمبر بقیوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور ناداروں پر لٹکتے رہے۔ حوائج ضروریہ، خدمت و اشاعت دین اور مہمان نوازی کے بعد جو کچھ تھا سب غریبوں کے لیے تھا۔ دم واپس بھی

لے ظفر الدین بہاری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، ص ۵۲

لے مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، ص ۵۰

آپ نے غریبوں کو فراموش نہیں کیا بلکہ فقراء کے بارے میں اپنے عزیز واقارب کو یوں وصیت فرماتے ہیں:

”فاتحہ کے کھانے سے اغنیاء کو کچھ نہ دیا جائے صرف فقراء کو دیں اور وہ بھی اعزاز اور خاطر داری کے ساتھ، نہ جھٹک کر۔ غرض کوئی بات خلاف سلت نہ ہو۔۔۔۔۔۔ اعتراف سے اگر لطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں۔ دودھ کا برف خانہ ساز اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بربانی، مرغ پلاؤ خواہ بکری کا شامی کباب، پراٹھے اور بالائی، فرنی، اُرد کی پھیری، دال مع اورک و لوازم، گوشت بھری کوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف، اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے یوں کر یا کر جیسے مناسب جانو، مگر لطیب خاطر، میرے لکھنے پر مجبور نہ ہو۔“

ایک وہ نام نہاد مصلح، پیر اور عالم دین ہیں جن کی نگاہیں دوسروں کی جیبوں پر ہوتی ہیں اور ایک اعلیٰ حضرت ہیں کہ عمر بھر غریبوں کی سرپرستی کرتے رہے اور آخری وقت بھی اپنے گھر سے اتنے لذیذ اور بیش قیمت کھانے غریبوں کو کھلاتے رہنے کی وصیت فرما رہے ہیں۔ یہ ہے غرباء و مساکین سے ہمدردی کا حقیقی جذبہ اور یہ ہے کہ لَنْ تَمَلُؤْا السُّبْحٰتِیَ مِنْ فِقْرٍ وَاَعْمَانِ حَبِیْبُونَ پر عمل کر کے دکھانا اور ساتھ ہی یہ تاکید فرمادی جاتی ہے کہ میرے کہنے پر مجبور نہ ہونا بلکہ غریبوں کا حق سمجھ کر انھیں کھلانا پلانا۔ ساتھ ہی انھیں حقیقہ سمجھ کر جھڑکنا نہیں ہوگا بلکہ ممانوں کی طرح خاطر داری اور اعزاز و اکرام کے ساتھ کھلانا چاہیے۔

جس کو غم جہاں میں بھی یاد رہے غم بیکساں
میری طرف ہنشمیں، جا کر اُسے سلام دے

اسلامی مساوات: مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، سب برابر ہیں۔ غریب اور امیر میں، گورے اور کالے میں، بادشاہ اور فقیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں محمود اور ایاز

برابر ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے سب یکساں ہیں، ہاں عزت و فضیلت کا معیار باری تعالیٰ شانہ کی نظر میں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیكُمْ ہے۔ یعنی جو خدا سے بہت ہی ڈرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اس کے برعکس غربت و امارت یا افسری و ماتحتی کے لحاظ سے ذلت یا عزت کا معیار قائم کرنا سراسر غلط اور لغو ہے۔ شعوب و قبائل کا فرق صرف پہچان کے لیے ہے اور امیر و غریب، شاہ و گدا کا امتیاز تنظیم کار و بار جہاں کی خاطر حکمت الہیہ ہے۔ ایک مزدور اگر متقی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناستی حکمران سے زیادہ عزت والا ہے۔ اسی طرح ایک نیکو کار غریب و مسکین آدمی اُس مالدار سے بہتر ہے جو بدکار یا بے راہرو ہو۔ جو دولت، امارت، عمدہ یا علم کی بدولت خود کو دوسروں پر ترجیح دے اپنے آپ کو اوروں سے بالا سمجھے دوسروں کو اپنے سے گھٹیا جانے وہ اسلامی اخوت و مساوات سے نا آشنا اور متکبر ہے حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے: لَا تَزْكُوا الْاَنْفُسَ کُذِبَ اللّٰهُ یُزَكِّیْ مَنْ یَّشَاءُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ خود کو پاک بنا زمت ٹھہراؤ جبکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک بنا دے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت کا عمل یہ تھا:

”ایک صاحب۔۔۔۔۔ خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی کبھی کبھی اُن کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اُن کے یہاں تشریف فرما تھے کہ اُن کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی چارپائی پر، جو صحن کے کنارے پر پڑی تھی، جھلکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اُس کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ نہایت سے سر جھکاتے اُٹھ کر چلا گیا۔ حضور کو صاحب خانہ کی اس مغرورانہ روش سے سخت تکلیف پہنچی مگر کچھ فرمایا نہیں۔“

کچھ دنوں کے بعد وہ حضور کے یہاں آئے۔ حضور نے اپنی چارپائی پر جگڑی وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کریم بخش حجام، حضور کا خط بنانے کے لیے آئے۔ وہ اس قدر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی کریم بخش! کھڑے کیوں ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اُن صاحب کے برابر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔

وہ بیٹھ گئے۔ پھر تو ان صاحب کے غصہ کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے سانپ پھنکارا
مارتا ہے اور فوراً اٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی نہ آتے۔ خلاف معمول جب موسم
گزر گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں۔ پھر
خود ہی فرمایا: میں بھی ایسے معجز مغرور شخص سے ملنا نہیں چاہتا۔

احادیث پر یقین: یوں تو لاکھوں علماء موجود ہیں جو احادیث پر کمال یقین کے مدعی ہونگے
لیکن امام اہلسنت کی اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر یقین کی شان
ملاحظہ ہو، خود فرماتے ہیں:

”میرے پاس ان عملیات کے ذخائر بھرے پڑے ہیں لیکن سجد اللہ آج تک
کبھی اس طرف خیال بھی نہ کیا، ہمیشہ ان دعویٰ پر جو احادیث میں ارشاد
ہوتیں عمل کیا، میری تو تمام مشکلات انہیں سے حل ہوتی رہتی ہیں“۔
۱۶۹۵ھ/۱۸۷۸ء میں جب آپ والدین کریمین کے ساتھ پہلی مرتبہ حج بیت اللہ اور زیارت
روضہ مطہرہ کے مشرف سے مشرف ہوئے تو واپسی میں بوقت طوفان اسی یقین کا عجیب منظر
سامنے آیا، چنانچہ فرماتے ہیں:

”پہلی بار کی حاضری والدین ماجدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے ہمراہ رکاب تھی۔
اُس وقت مجھے تیس سو سال تھا۔ واپسی میں تین دن طوفان شدید رہا تھا۔
اُس کی تفصیل میں بہت طویل ہے۔ لوگوں نے کفن پہن لیے تھے۔ حضرت اللہ ماجد
کا اضطراب دیکھ کر، اُن کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ
آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا۔ یہ قسم میں نے حدیث ہی
کے اطمینان پر رکھی تھی، جس حدیث میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے
حفاظت کی دعا ارشاد ہوئی ہے، میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، لہذا حدیث کے

۱۔ نظر الدین بہاری، مولانا، حیات اعلیٰ حضرت، ص ۴۰

۲۔ مصطفیٰ رضا خاں، مولانا، ملفوظات اعلیٰ حضرت، جلد دوم، مطبوعہ کراچی، ص ۲

وعدہ صادقہ پر مطمئن تھا پھر قسم کے نکل جانے سے خود مجھے اندیشہ ہوا اور معاً
حدیث یاد آئی مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا حضرت عتوت کی طرف رجوع
کی اور سرکار رسالت سے مدد مانگی۔ الحمد للہ کہ وہ مخالف ہو کہ تین دن سے
بشدت چل رہی تھی دو گھنٹی میں بالکل موقوف ہو گئی اور جہاز نے نجات پائی۔
اسی سلسلے میں ایک سببی آموز واقعہ امام اہلسنت کے معمولات سے اور ملاحظہ فرمائیے۔ یہ
واقعہ علامہ ملک العلماء نظر الدین بہاری علیہ الرحمہ کے سامنے پیش آیا، نوبت کہان تک پہنچی
اعلیٰ حضرت کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیے:

”اُسی دن مسوڑھوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑھا کہ حلق اور منہ بالکل بند
ہو گیا۔ مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اتارتا تھا اور اسی پر اکتفا کرتا، بات
بالکل نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ قرأت سر تیرے بھی بیسر نہ تھی۔ سنتوں میں بھی
کسی کی اقتدا کرتا۔ اُس وقت مذہب حنفی میں عدم جواز قرأت خلف الامام
کا یہ نفیس فائدہ مشاہدہ ہوا۔ جو کچھ کسی سے کہنا ہوتا، لکھ دیتا۔ بخار بہت شدید
اور کان کے پیچھے گلٹیاں۔

میرے منجھلے بھاتی مرحوم (یعنی مولانا حسن رضا خاں) ایک طبیب کو لائے
اُن دنوں بریلی میں مرض طاعون بشدت تھا۔ اُن صاحب نے بغور دیکھ کر سات
آٹھ تنبیہ کہا، یہ وہی ہے، وہی ہے۔ یعنی طاعون۔ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا
اس لیے اُنہیں جواب نہ دے سکا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا، یہ غلط کہہ رہا
کہ مجھے طاعون ہے اور نہ انشاء اللہ العزیز کبھی ہوگا، اس لیے کہ میں نے
طاعون زدہ کو دیکھ کر بار بار وہ دعا پڑھ لی ہے جسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، اُس
بلا سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَاقَبَنِي بِمَا ابْتَلَاكَ

بِهِ وَفَضَّلْتَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً - جن جن امراض کے مریضوں، جن جن بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا، الحمد للہ کہ آج تک ان سب سے محفوظ رہوں اور بعونہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔

البتہ ایک بار اسے پڑھنے کا مجھے افسوس ہے۔ مجھے نوعمری میں اکثر

آشوب چشم ہوجایا کرتا تھا۔ بوجہ حدت مزاج بہت تکلیف دیتا تھا۔ ۱۹ سال

کی عمر ہوگئی اور رامپور جاتے ہوئے ایک شخص کو در چشم میں مبتلا دیکھ کر یہ دُعا پڑھی، جب سے اب تک آشوب چشم پھر نہیں ہوا۔ اسی زمانہ میں صرف دو

مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آنکھ کچھ دہی معلوم ہوئی، دو چار دن بعد وہ صاف

ہوگئی۔ دوسری دہی وہ بھی صاف ہوگئی مگر درد، کھشک، سُرخ کوئی تکلیف

اصلاً کسی قسم کی نہیں۔ افسوس اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم سے حدیث ہے: تین بیماریوں کو مکروہ نہ جانو۔ زکام کہ اُس کی وجہ سے

بہت سہی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ کھجلی (خارش) کہ اُس سے امراض

جلدیریزام وغیرہ کا انسداد ہوتا ہے۔ آشوب چشم نابینائی کو دفع کرتا ہے۔

اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر امام اہلسنت قدس سرہ کو کس درجہ یقین تھا، اس سلسلے میں بعض واقعات ملاحظہ فرمائیے، ایک ایمان افروز

واقعہ اور پیش خدمت ہے:

”جمادی الاولیٰ ۱۳۰۰ھ میں بعض مہم نصانیف کے سبب ایک مہینہ باریک

خط کی کتابیں شبانہ روز علی الاتصال دیکھنا ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، دن کو

اندر کے دالان میں کتاب دیکھنا اور لکھنا۔ اٹھائیسواں سال تھا، آنکھوں نے

اندھیرے کا خیال نہ کیا۔ ایک روز شدت گرمی کے باعث دوپہر کو لکھتے لکھتے

نہایا، سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز سر سے داہنی آنکھ میں اتر آئی

بائیں آنکھ بند کر کے داہنی سے دیکھا تو اوسط شی مرئی میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا، اُس کے نیچے شی کا جتنا حصہ ہوا وہ ناصاف اور دبا ہوا معلوم ہوتا۔

یہاں ایک ڈاکٹر اُس زمانہ میں علاج چشم میں بہت سربر آوردہ تھا۔ سینڈرسن

یا انڈرسن کچھ ایسا ہی نام تھا۔ میرے استاد جناب مرزا غلام قادر صاحب رحمۃ

اللہ علیہ نے اصرار فرمایا کہ اُسے آنکھ دکھائی جائے۔ علاج کرنے کا اختیار

ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں صرف آنکھ پر روشنی ڈال کر آلات سے بہت دیر

تک بغور دیکھا اور کہا کہ کثرت کتاب بینی سے کچھ پوست آگئی ہے، پندرہ دن

کتاب نہ دیکھیے۔ مجھ سے پندرہ گھنٹی بھی کتاب نہ چھوٹ سکی۔

حکیم سید مولوی اشفاق حسین صاحب مرحوم سہسوانی ڈپٹی کلکٹر طبابت بھی

کرتے تھے اور فقیر کے مہربان تھے، فرمایا: مقوٰۃ نزول آب ہے۔ بیس برس

بعد (خدا ناکرہ) پانی اتر آئے گا۔ میں نے التفات نہ کیا اور نزول آب والے

کو دیکھ کر وہی دُعا پڑھ لی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر

مطمئن ہو گیا۔

۱۳۱۶ھ میں ایک اور حادثہ طلبیب کے سامنے ذکر ہوا۔ کہا چار برس بعد

(خدا نخواستہ) پانی اتر آئے گا۔ ان کا حساب ڈپٹی صاحب کے حساب سے

بالکل موافق آیا۔ انہوں نے بیس برس بعد کئے تھے، انہوں نے سولہ برس بعد

چار برس کے مجھے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا

کہ طلبیبوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل ہوتا۔ الحمد للہ بیس درکنار تیس

برس سے زائد گزر چکے ہیں اور وہ حلقہ ذرہ بھر نہ بڑھا، نہ بعونہ تعالیٰ بڑھے گا۔

نہ میں نے کذب بینی میں کبھی کمی کی، نہ کمی کروں۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ

یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائم و باقی معجزات ہیں جو آج تک

آنکھوں دیکھے جا رہے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان مشاہدہ کریں گے۔

مسلمان کرنا: عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم کسی مسلمان پر اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کا قائل ہو کر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے کسی عالم دین کے پاس لے جایا جاتا ہے، اس میں کئی گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں حالانکہ جو مسلمان بھی کسی غیر مسلم کے ایسے ارادے پر مطلع ہو اس پر فرض ہے کہ اسی وقت اسے کلمہ شہادت پڑھائے اور اگر ہو سکے تو اتنا کہلوادے کہ "اللہ ایک ہے اور عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اس کے بعد کسی عالم دین کے پاس لے جا کر اعلانِ عام کے ساتھ مسلمان کرواتے۔ امام اہلسنت کی زندگی کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو:

"جناب سید ایوب علی صاحب ہی کا بیان ہے کہ ایک روز ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو اپنے ہمراہ لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا کلمہ پڑھو ادیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں۔ حضور نے بلاتانیر و تساہل..... غیر مسلم کو پڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ تلقین فرماتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لایا۔ میرا دین مسلمانوں کا دین ہے۔ اس کے سوا جتنے معبود ہیں سب جھوٹے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہے۔ جلانے والا ایک اللہ ہے۔ مارنے والا ایک اللہ ہے۔ پانی برسانے والا ایک اللہ ہے۔ روزی دینے والا ایک اللہ ہے۔ سچا دین ایک اسلام ہے، اور جتنے دین ہیں سب جھوٹے ہیں۔

اس کے بعد مقرض (قلیجی) سے سر کی چوٹی کاٹی اور کٹورے میں پانی منگو کر تھوڑا سا خود پیا، باقی اسے دیا اور اس سے جو بچا وہ حاضرین مسلمانوں نے تھوڑا تھوڑا پیا۔ اسلامی نام عبد اللہ رکھا گیا۔ بعدہ جو صاحب لے کر آئے تھے انہیں فمائش کی کہ جس وقت کوئی اسلام میں آنے کو کہے، فوراً کلمہ پڑھا دینا چاہیے کہ اگر کچھ بھی دیر کی تو گویا اتنی دیر اس کے کفر پر رہنے کی

معاذ اللہ رضا مندی ہے۔ آپ کو کلمہ پڑھو ادینا چاہیے تھا، اس کے بعد یہاں لاتے یا اور کہیں لے جاتے۔ ان صاحب نے یہ من کو دست بستہ عرض کیا کہ حضور! مجھے یہ بات معلوم نہ تھی۔ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا: اللہ معاف کرے، کلمہ پڑھ لیجیے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور سلام کر کے چلے گئے۔

اخلاقِ جلالی: خود ساختہ تہذیب کے علمبردار اور صلح کلیت کے پیاریوں نے جس چیز کا نام تہذیب اور اخلاقِ حسنہ رکھا ہوا ہے کہ خدا اور رسول (جل جلالہ، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے گستاخوں اور مسلمانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے کیونکہ سب مسلمان ہیں اور سارے بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایسے حضرات کے نزدیک خواہ کتنا ہی قابلِ تعریف طرزِ عمل ہو لیکن اسلامی تہذیب ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ طریق کار الْحَبِّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ کے خلاف ہے۔ آیتے امام احمد رضا خاں بریلوی کا اخلاق ملاحظہ ہو:

"آپ کی ذات الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی زندہ تصویر تھی۔ اللہ و رسول جل جلالہ، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے کو اپنا عزیز سمجھتے اور اللہ و رسول جل جلالہ، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کو اپنا دشمن جانتے۔ اپنے مخالف سے کبھی کج خلقی سے پیش نہ آتے۔ خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ جس سے ایک بار کلام فرمایا اس کے دل کو گرویدہ بنا لیا۔ کبھی دشمن سے بھی سخت کلامی نہ فرمائی۔ ہمیشہ علم سے کام لیا، لیکن دین کے دشمن سے کبھی نرمی نہ برتی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت نچھے میاں مولانا محمد رضا نے عصر کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حیدرآباد دکن سے ایک رافضی صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے اور ابھی حاضر خدمت ہوگا۔ تالیفِ قلب کے لیے اس سے بات چیت کر لیجیے گا۔

دوران گفتگو ہی میں وہ راضی بھی آگیا۔ حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے یہاں تک کہ نئے میاں صاحب نے اس کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے گفتگو نہ فرمانے سے اس کو بھی کچھ بولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ پھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نئے میاں نے اعلیٰ حضرت کو سنا تے ہوئے کہا کہ اتنی دور سے وہ صرف ملاقات کے لیے آیا تھا، اخلاقاً توجہ فرمالینے میں کیا حرج تھا؟

حضور اعلیٰ حضرت نے جلال کی حالت میں ارشاد فرمایا کہ میرے اکابر پیشواؤں نے مجھے یہی اخلاق بتایا ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے تشریف لارہے ہیں۔ راہ میں ایک مسافر ملتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ ساخنہ چلنے کا اشارہ فرمانے میں۔ وہ پیچھے پیچھے کا شانہ اقدس تک پہنچتا ہے۔ امیر المؤمنین خادم کو کھانا لانے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ خادم کھانا لاتا ہے اور دسترخوان بچھا کر سامنے رکھتا ہے۔ کھانا کھانے میں وہ مسافر بد مذہبی کے کچھ الفاظ زبان سے نکالتا ہے۔ امیر المؤمنین خادم کو حکم فرماتے ہیں کہ کھانا اس کے سامنے سے فوراً اٹھاؤ اور اس کا کان پکڑ کر باہر کر دو۔ خادم اسی دم حکم بجالاتا ہے۔ خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے نام لے کر کہ منافقین کو نکلو یا اخریہ یا فلان یا تاك متافقوا۔ اے فلاں مسجد سے نکل جا، اس لیے کہ تو منافق ہے۔

سونے کا انداز: شرابِ محبت سے مٹور رہنے والوں کے طور طریقہ دوسروں سے کچھ نرالے ہی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سونے کا طریقہ علامہ بدرالدین احمد صاحب نے یوں رقم فرمایا ہے:

”آپ کے خادم کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت ۲۴ گھنٹے میں صرف ڈیڑھ دو گھنٹے آرام فرماتے اور باقی تمام وقت تصنیف و کتب بینی اور دیگر خدماتِ دینی میں صرف فرماتے اور ہمیشہ بشکل نام اقدس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سویا کرتے۔ اس طرح کہ دونوں ہاتھ ملا کر سر کے نیچے رکھتے اور پاؤں سمیٹ لیتے جس سے سر مہم، کنیاں ح، کریم، پاؤں دال بن کر گویا نام پاک محمد کا نقشہ بن جاتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم۔“

علامہ محمد صابر نسیم بستوی نے اس سلسلے میں یوں وضاحت فرمائی ہے:

”عجب آپ آرام فرماتے تو داہنی کروٹ، اس طرح پیکرہ دونوں ہاتھ ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پائے مبارک سمیٹ لیتے۔ کبھی کبھی خدام ہاتھ پاؤں دابنے بیٹھ جاتے اور عرض کرتے: حضور! دن بھر کام کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، قرپائے مبارک دراز فرمائیں تو ہم درد نکال دیں۔ اس کے جواب میں فرماتے کہ پاؤں تو قبر کے اندر پھیلیں گے۔ ایک نوحہ تک آپ کے اس ہیئت پر آرام فرمانے کا مقصد معلوم نہیں ہوا اور نہ آپ سے پوچھنے کی کوئی ہمت ہی کر سکا۔“

آخر کار امام اہلسنت قدس سرہ کے اس طرح سونے کا راز اعلیٰ حضرت کے خلیف اکبر،

حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر فرمایا کہ سوتے وقت یہ فانی الرسول اپنے جسم کو اس طرح ترکیب دے کر سوتے ہیں کہ لفظ محمد بن جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں پیغامِ اجل آجائے تو زہے نصیب ورنہ دوسرا فائدہ تو حاصل، وھوھذا:

”اس طرح سونے سے فائدہ یہ ہے کہ ستر نزار فرشتے رات بھر اس نام مبارک کے گرد و دسترخوب پڑھتے ہیں اور وہ اس طرح سونے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔“

لے بدرالدین احمد، مولانا: سوانح اعلیٰ حضرت، ص ۹۱

لے محمد صابر نسیم بستوی، مولانا: مجدد اسلام، ص ۸۶، ۸۷

لے ایضاً: ص ۸۷

سوتے وقت جب آپ دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھتے تو انگلیوں کا انداز عجیب ہوتا۔
انگوٹے کو انگشت شہادت کے وسط پر رکھتے اور باقی انگلیاں اپنی اصلی حالت پر رہتیں۔
اس طرح انگلیوں سے لفظ اللہ بن جاتا۔ گویا سوتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے
اللہ اور جسم سے محمد لکھ کر سوتے۔ حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں علیہ الرحمہ نے آپ کی ان
والہانہ اداؤں کے پیش نظر ہی تو کہا تھا کہ: س

نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں

مہر غلامی ہے پڑھی، لکھتے ہوئے ہیں نام دو

چاندی کی کرسی؛ ریاست رام پور میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا، جو اس طرح
منقول ہے:

”چنانچہ نواب صاحب نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور حضور اپنے
خسر جناب شیخ فضل حسین کے ہمراہ رام پور تشریف لے گئے۔ جس وقت
آپ نواب کے یہاں پہنچے اور نواب صاحب نے آپ کی زیارت کی تو بہت
متعجب ہوئے لیکن آپ کے علمی جاہ و جلال کے قائل ہو چکے تھے، اس لیے
آپ کے انتہائی اعزاز و اکرام میں چاندی کی کرسی پیش کی۔ آپ نے فوراً ارشاد
فرمایا کہ مرد کے لیے چاندی کا استعمال حرام ہے۔ اس جواب سے نواب صاحب
کچھ خفیف ہوئے اور آپ کو اپنے پلنگ پر جگہ دی اور آپ سے غایت لطف
و محبت سے باتیں کرنے لگے۔“ ط

نواب صاحب کس طرح اعلیٰ حضرت کے علمی جاہ و جلال کے قائل ہوئے اور کیوں آپ کی زیارت
کا شوق پیدا ہوا، اس کا سبب ایک فتویٰ ہے۔ اس فتوے کا واقعہ اس طرح منقول ہے:

”حضرت مولانا تقی علی خاں صاحب کا نام سن کر ایک صاحب رام پور سے ان کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا

فتویٰ پیش کیا، جس پر بہت سے علمائے کرام کی مہر میں اور دستخط تھے۔ حضرت
نے فرمایا کہ کمرے میں مولوی صاحب ہیں، ان کو دے دیجیے جواب لکھ دیں گے
وہ صاحب کمرے میں گئے اور واپس آکر عرض کیا کہ کمرے میں مولوی صاحب
نہیں ہیں۔ فقط ایک صاحب زادے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: انہیں کو دے دیجئے،
وہ لکھ دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! میں تو آپ کا شہرہ سن کر آیا ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ آج کل وہی فتویٰ لکھا کرتے ہیں، انہیں کو دے دیجیے۔ بالآخر
ان صاحب نے اعلیٰ حضرت کو فتویٰ دے دیا۔

حضور نے جو اس فتویٰ کو ملاحظہ فرمایا تو جواب درست نہ تھا۔ آپ نے اس
جواب کے خلاف جوابات حق تھے لکھ کر والد ماجد صاحب قبلہ کی خدمت میں پیش
کیا۔ انہوں نے اس کی تصدیق فرمادی۔ وہ صاحب اس فتویٰ کو لے کر
رامپور پہنچے اور نواب رامپور نے اسے از اول تا آخر دیکھا، تو عجیب اول مولانا
ارشاد حسین صاحب کو بلوایا۔ آپ تشریف لائے تو وہ فتویٰ آپ کی خدمت
میں پیش کیا۔ مولانا نے سن گئی و صدق پندی کا ثبوت دیتے ہوئے صاف صفا
ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں وہی جواب صحیح ہے جو بریلی تشریف سے آیا ہے۔

نواب صاحب نے کہا: پھر اتنے علمائے آپ کے جواب کی تصدیق کس طرح
کردی؟ مولانا نے فرمایا کہ تصدیق کرنے والے حضرات نے مجھ پر میری شہرت
کی وجہ سے اعتماد کیا اور نہ حق وہی ہے جو انہوں نے لکھا ہے۔ اس واقعے
پھر یہ معلوم کر کے کہ اعلیٰ حضرت کی عمر انیس بیس سال کی ہے، نواب صاحب
متحیرہ گئے اور ان کو آپ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔“ ط

یہ واقعہ حیات اعلیٰ حضرت کے صفحہ ۱۳۳ پر بھی مفتی اعجاز ولی خاں صاحب مرحوم سے
منقول ہے۔ لیکن معلوم نہیں مفتی صاحب نے کس مصلحت کے تحت اس وقت

امام احمد رضا خاں قدس سرہ کی عمر کا چودھواں سال بتایا حالانکہ اُس وقت آپ کی عمر کم از کم انیس بیس سال تھی جیسا کہ علامہ نظرف الدین بہاری علیہ الرحمہ نے صفحہ ۱۲۴، ۱۳۵ پر تصریح فرماتی ہے۔ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شادی کے بعد پیش آیا کیونکہ اعلیٰ حضرت کو اُن کے خسر صاحب کے ذریعے بلوایا گیا تھا اور شادی آپ کی ۱۲۹۱ھ/ ۱۸۸۵ء میں ہوئی اور اُس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی۔ چاندی کی کرسی پیش کرنے کا معنی اعجازِ ذی خاں صاحب نے بھی اپنے بیان میں ذکر کیا ہے۔

داہنہا ہاتھ: اکثر حضرات داہنے اور بائیں ہاتھ کے کاموں کا فرق ملحوظ نہیں رکھتے۔ امام اہلسنت نے اس بارے میں علی طور پر مسلمانوں کو ان کا دائرہ کار بتایا، چنانچہ اس سلسلے میں منقول ہے:

”ناک صاف کرنے اور استنجایا فرمانے کے سو آپ کے ہر کام کی ابتدا سیدھے ہی جانب سے ہوتی تھی۔ چنانچہ عمامہ مبارک کا شملہ سیدھے شانہ پر رہتا، اُس کے پیچ سیدھی (دائیں) جانب ہوتے اور اُس کی بندش اس طور پر ہوتی کہ بائیں دست مبارک میں بندش اور داہنہ دست مبارک پیشانی پر ہر پیچ کی گرفت کرتا تھا۔“

اس سلسلے میں علامہ بدر الدین احمد صاحب نے اعلیٰ حضرت کے طرز عمل کی بُوں و وضاحت فرمائی ہے:

”اگر کسی کو کوئی چیز دیتے اور وہ بائیں ہاتھ بڑھاتا تو فوراً دست مبارک روک لیتے اور فرماتے کہ داہنے ہاتھ میں لو، بائیں ہاتھ میں شیطان لیتا ہے بسم اللہ شریف کا عدد ۸۶، لکھنے کا عام دستور یہ ہے کہ پہلے، لکھتے ہیں پھر ۸، اس کے بعد ۶ لکھتے ہیں لیکن آپ پہلے ۶ پھر ۸ تب، تحریر فرماتے یعنی اعداد کو بھی داہنی جانب سے لکھتے۔“

لے محمد صابری، مولانا: مجدد اسلام، ص ۸۹

لے بدر الدین احمد، مولانا: سوانح اعلیٰ حضرت، ص ۹۲

بعض مبارک عادتیں؛ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا اور مستحسن عادات و اطوار کا نوگر بننا خدا کے برگزیدہ بندوں ہی سے مخصوص ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بعض عادتیں ملاحظہ ہوں:

”بشکل نام اقدس (محمد) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتراحت فرمانا، ٹھٹھانہ لگانا، جمائی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لینا اور کوئی آواز نہ ہونا، گلی کرتے وقت دست چپ ریش مبارک پر رکھ کر، نجدہ سر ہو کر پانی منہ سے گرانا، قبہ کی طرف رخ کر کے کبھی نہ ٹھوکانا، نہ قبہ کی طرف پائے مبارک دراز کرنا، نماز پنجگانہ مسجد میں باجماعت ادا کرنا، فرض نماز با عمامہ پڑھنا، بغیر صوف پڑھی دوات سے نفرت کرنا، یونہی لوہے کے قلم سے اجتناب کرنا، خط بنواتے وقت اپنا کنگھا شیشہ استعمال فرمانا، مسواک کرنا، سر مبارک میں پھیل ڈلوانا۔“

مشاغل: آج تو علمائے کرام کی زندگیوں میں بھی رنگینی پیدا ہو گئی۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جنہیں درس و تدریس اور خطابت کے بعد تقریر و روشی سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ساری زندگی میں ایک دو کتابیں لکھ جائیں۔ امام اہلسنت کے مشاغل ملاحظہ ہوں، کیا اُن کے ہاں تقریر یا فتویٰ یا تعویذ و روشی پھٹکی بھی تھی؟ دن رات اُن کا مشغلہ تصنیف و تالیف، فتویٰ نویسی اور خدمتِ دین تھا اور یہ سب کچھ بوجہ اللہ تھا۔ علامہ بدر الدین احمد نے امام احمد رضا خاں بریلوی کے مشاغل کا تذکرہ یوں کیا ہے:

”تصنیف و تالیف، کتب بینی، فتویٰ نویسی اور اورد و اشغال کے خیال سے خلوت میں تشریف رکھنے پانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہونے اور ہمیشہ نماز باجماعت ادا فرمایا کرتے اور باوجودیکہ بے حد حائر مزاج تھے مگر کیسی گرمی کیوں نہ ہو ہمیشہ عمامہ اور انگرکھ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے“

خصوصاً فرض تو کبھی صرف ٹپنی اور کڑتے کے ساتھ ادا نہ کیا۔

غذا: اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک طرف تو ہر وقت تصنیف و تالیف اور فتویٰ نویسی و کتب بینی میں مشغول رہتے اور دوسری طرف ضعیف الجثہ تھے، یہی وجہ ہے کہ صاحب حیثیت اور رئیس ہونے کے باوجود آپ کی خوراک محض اتنی تھی جو صرف زندہ رہنے کے لیے بمشکل کافی ہو سکے۔ مثلاً:

”آپ کی غذا نہایت ہی قلیل تھی۔ ایک پیالی بکری کے گوشت کا شوربا لیزیرج کے اور ایک یا ڈیڑھ بسکٹ اور وہ بھی روز روز نہیں، بلکہ بسا اوقات اس میں بھی ناغہ ہو جاتا تھا۔“

علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی عام غذا کے بارے میں یوں وضاحت فرمائی ہے:

”اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی عام غذا روٹی، چکنی کے پےسے ہوئے آٹے کی اور بکری کا تورہ تھا۔“

ملفوظات تشریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوراک ایک چپاتی تھی، اسی طرح ایک دو بسکٹ اور ایک پیالی شوربا براتے نام خوراک ہی تھے، اس پر بھی ناغوں کا طرہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی غذا ملاحظہ ہو:

”مولوی محمد حسین صاحب میرٹھی موجد طلسمی پریس کا بیان ہے کہ..... اعلیٰ حضرت بعد افطار پان نوش فرماتے، شام کو کھانا کھاتے میں نے کسی دن نہیں دیکھا۔ سحر کو صرف ایک چھوٹے سے پیالے میں فریسی اور ایک پیالی میں چٹنی آیا کرتی تھی، وہ نوش فرمایا کرتے۔ ایک دن میں نے دریافت کیا کہ حضور! فریسی اور چٹنی کا کیا جوڑ؟ فرمایا، نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک ہی پختہ کرنا سنت ہے، اس لیے

لے بدرالدین احمد، مولانا: سوانح اعلیٰ حضرت، ص ۹۱، ۹۲

لے محمد صاحب نسیم بستوی، مولانا: مجدد اسلام، ص ۸۶

لے ظفر الدین بہاری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، ص ۹۰

پہنچتی آتی ہے۔

خدمت اسلام کی دھن: وہ بھی علمائے کرام ہیں جنہیں اپنی تصنیف میں کثرتِ مشاغل اور سید مصروفیات کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو وہ موضوع کتاب پر تحقیقات کے دریا بہا دیتے۔ تقریر کے لیے (اگر کراتے پر نہ آئے ہوں) مخلصین و مجتہدین کھینچ کر لے آئیں تو خطبہ کے بعد ہی مصرع طرح یہ ہو گا کہ طبیعت انتہائی ناسازگاری محض فلاں ابن فلاں صاحب کے پاس خاطر سے آتا پڑ گیا لیکن ایک امام اہلسنت کی ذات گرامی ہے کہ جہاں لجاؤ اسے نبیفت و نانا توں، ساری عمر اراضِ فرمتہ کے شکار رہے، درگذرہ چوڑہ سال کی عمر سے لاق، سردرد دائمی اور بخار تو گویا سفر و حضر میں رفیقِ زندگی یا راحت جان تھا۔ اس کے باوجود اس نالغہ عصر کی دینی خدمات کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے۔ ثبوت کے طور پر ایک واقعہ ملاحظہ ہو:

”میرے (مولوی محمد حسین میرٹھی کے) بریلی قیام کے زمانہ میں حضرت کا ماہ الجہن ہوا جس میں بینا مسہل ہوتے ہیں، مگر کام (تصنیف و تالیف کا) برابر جاری رہا۔ عزیزوں نے یہ دیکھ کر منع کیا مگر نہ مانے۔ انھوں نے طبیب صاحب سے کہا کہ مسہل کے دن بھی برابر لکھتے ہیں اور قریباً بینا مسہل ہوں گے، آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ طبیب صاحب نے بہت سمجھا یا تو یہ ارشاد فرمایا: اچھا مسہل کے دن میں خود نہیں لکھوں گا، دوسروں سے لکھو ادیا کروں گا اور غیر مسہل کے دن میں خود لکھوں گا۔ طبیب صاحب نے کہا کہ اس کو غنیمت سمجھو۔

اس کا یہ انتظام کیا گیا کہ ایک مکان میں چند الماریاں لگا کر ان میں کتا ہیں رکھ دی گئیں۔ مسہل کے دن حضرت اس مکان میں تشریف لے گئے اور ساتھ صرف میں تھا۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب جو فتویٰ لکھانا ہوتا اس کا کچھ مضمون لکھا کر مجھ سے فرماتے کہ الماری میں سے فلاں جلد نکال لو۔ اکثر کتابیں مصری

لے ظفر الدین بہاری، مولانا: حیات اعلیٰ حضرت، ص ۱۴

ٹائپ کی کئی کئی جلدوں میں تھیں۔ مجھ سے فرماتے اتنے صفحے کوٹ لو اور فلاں صفحہ پر اتنی سطروں کے بعد یہ مضمون شروع ہوا ہے اُسے نقل کر دو۔ میں وہ فقرہ دیکھ کر پورا مضمون لکھنا اور سخت متحیر تھا کہ وہ کون سا وقت بلا تھا کہ جس میں صفحہ اور سطر گن کر رکھے گئے تھے۔ غرضیکہ اُن کا حافظہ اور دماغی باتیں ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر تھیں۔“ لے

اپنی ذات پر فتویٰ: انسانی فطرت کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے لیے ہر ممکن آسانی کا متلاشی رہتا ہے۔ گنجائش اور رعایت کا پہلو تلاش کرنے میں کسر اٹھا نہیں رکھتا لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے نہ صرف خود کو احکام شرع کا پابند ہی بناتے ہیں بلکہ وہ رخصت کی جگہ عزیمت اور فتویٰ کی جگہ تقویٰ اختیار کر کے مواخذے سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ امام اہلسنت کی عزیمت کا حیرت انگیز واقعہ ملاحظہ فرمائیے:

”جب ۱۳۳۹ھ کا ماہ رمضان شریف، مئی جون ۱۹۲۱ء میں پڑا اور مسلسل علالت وضعف فراوان کے باعث اعلیٰ حضرت نے اپنے اندر اس سال کے موسم گرما میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ پائی تو اپنے حق میں فتویٰ دیا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، لہذا روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا۔ پھر آپ روزہ رکھنے کے ارادے سے کوہ بھوالی ضلع نینی تال شریف لے گئے۔“ لے

دنیا سے بے رغبتی: ایک وہ حضرات ہیں جو مسلمانوں کے پیشوا اکلانے کے مدعی ہیں، لیکن دنیا کمانے کی خاطر بعض برٹش گورنمنٹ کے ایوان حکومت کے سامنے سجدہ ریز رہتے تو دوسرے گاندھوی مہتمم خانے پر، لیکن امام اہلسنت کے خلوص ولہیت کا اندازہ وہ سبید ہستیاں کر سکتی ہیں جو خود ان صفات سے متصف ہوں۔ چنانچہ سیف الاسلام دہلوی نے اعلیٰ حضرت

علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا ہے:

”میں نے سوداگری مجھے کے کئی بزرگوں سے سنا کہ نظام حیدرآباد وکن نے کئی بار لکھا کہ حضور کبھی میرے یہاں تشریف لا کر منون فرمائیں یا مجھے ہی نیاز کا موقع عنایت فرمائیں تو آپ (اعلیٰ حضرت) نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عنایت فرمایا ہوا وقت صرف اُسی کی اطاعت کے لیے ہے میں آپ کی آؤ بھگت کا وقت کہاں سے لاؤں؟“ لے

اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کے خلف اکبر حضرت حجۃ الاسلام کے بارے میں موصوف نے یوں وضاحت فرمائی ہے:

”اُن کے صاحبزادے حضرت مولانا حامد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ جن سے مجھ کو چند دن فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، بڑے حسین و جمیل، بڑے عالم اور بے انتہا خوش اخلاق تھے۔ اُن کی خدمت میں بھی نظام حیدرآباد نے دارالافتاء کی نظامت کی درخواست کی اور اس سلسلہ میں کافی دولت کا لالچ دلایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں جس دروازہ خدا کے کریم کا فقیر ہوں، میرے لیے وہی کافی ہے۔“ لے

اسی قسم کا واقعہ نواب رامپور کے ساتھ پیش آیا، چنانچہ علامہ بہاری مرحوم نے لکھا ہے کہ: ”ایک مرتبہ نواب رامپور نے نالی جا رہے تھے۔ اسپیشل بریلی شریف پہنچے تو حضرت شاہ مہدی حسن میاں صاحب نے اپنے نام سے ڈیڑھ ہزار کے نوٹ ریاست کے مدارالہمام کی معرفت بطور نذر اسٹیشن سے حضور کی خدمت میں بھیجے اور والی ریاست کی جانب سے مستدعی ہوتے ہیں کہ ملاقات کا موقع دیا جائے حضور کو مدارالہمام صاحب کے آنے کی خبر ہوئی تو انڈر سے دروازہ کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے مدارالہمام صاحب سے فرمایا کہ میاں کو میرا سلام عرض کیجیے گا اور یہ کیجیے گا، یہ اڑتی

نذر کیسی؟ مجھے میاں کی خدمت میں نذر پیش کرنا چاہیے نہ کہ میاں مجھے نذر دیں۔ یہ ڈیڑھ نہر ہوں یا جتنے ہوں واپس لے جائیے، فقیر کا مکان نہ اس قابل کہ کسی والی ریاست کو بلا سکوں اور نہ میں والیان ریاست کے آداب سے واقف کہ خود جا سکوں! لے

جناب سیف الاسلام صاحب نے اس سلسلے میں ایک واقعہ اور نقل کیا ہے جو یہ ہے:

”نواب حامد علی خاں صاحب مرحوم کے متعلق معلوم ہوا کہ کئی بار اٹھنوں نے اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ حضور رامپور تشریف لائیں تو میں بہت ہی خوش ہوں گا۔ اگر یہ ممکن ہو تو مجھی کو زیارت کا موقع دیجیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ چونکہ آپ صحابہ کبار رضوان علیہم اجمعین کے مخالف شیعوں کے طرفدار اور ان کی تعزیر داری اور ماتم وغیرہ کی بد عادات میں معاون ہیں، لہذا میں نہ آپ کو دیکھنا جائز سمجھتا ہوں نہ اپنی صورت دکھانا ہی پسند کرتا ہوں! لے

اہل محلہ پر اثر: بعض حضرات وہ بھی ہیں جو آسمان علم کے نیر تاباں ہونے کے مدعی ہیں لیکن ماحول تو درکنار خود ان کے گھر والے غیر اسلامی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں امام اہلسنت چونکہ سنت کے زبردست پیروکار تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اسی رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے محلے کا رنگ ملاحظہ ہو:

”ایک علامت تو ان کی بزرگی کی یہ بہت ہی روشن تھی کہ میں (منور حسین سیف الاسلام صاحب) غالباً سات برس متواتر اعلیٰ حضرت کے محلہ میں رہا مگر کہیں سے مجھ کو باجے گاجے اور شب برات وغیرہ کے دن پٹاخوں کی آواز نہیں آئی، نہ میں نے کبھی آٹھ نو سال کی بچی کو بے پردہ دیکھا۔ محلہ میں ایسا معلوم ہوتا کہ سب رہنے والے متقی اور نہایت ہی پابند شریع ہیں۔

چھوٹے چھوٹے بچوں سے ماں بہن کی گالی نہیں سنی۔ جب بچے کبھی ایک دوسرے سے لڑتے تو ہاتھ پائی بھی نہ کرتے، نہ گالیاں ہی دیتے، ہاں ان کی بڑی سے بڑی گالی بے دین، بد عقیدہ، دوپائی، پھڑالوی، دیو بندی، غیر مقلد، نیچری اور مذہبی وغیرہ تھی۔ شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش یا خوشی کے موقع پر بھی گھڑوں سے لڑکیوں یا عورتوں کے گانے، ڈھولک بجانے تک کی آواز نہیں سنی۔ اسی طرح موت کے موقع پر بھی محلے کی عورتیں اتنی ہی آواز سے روتی ہوں گی جو دروازے کے باہر نہ جاسکے۔ غرض یہ ہے کہ سوداگری محلے میں کسی گھر کی شادی غمی کی خبر لوگوں کو اطلاع دینے پر ہی ہوتی تھی۔ آتش بازی اور تاش یا دوسرے بیہودہ مشغلے بھی سوداگری محلہ میں، میں نے نہیں دیکھے! لے

سہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

سلام کا جواب: آجکل تو سلام کرنے اور جواب دینے میں کتنی ہی حدتیں پیدا ہو چکی ہیں جن کا رات دن مشاہدہ عام ہو رہا ہے۔ نمائشی اور فرشی سلام کا بھی خوب زور ہے لیکن چونکہ تذکرہ امام اہلسنت کا ہے لہذا یہاں مسنون سلام کے بارے میں آپ کے بچپن کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے:

”ایک روز مولوی صاحب موصوف حسب معمول بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک بچے نے سلام کیا، مولوی صاحب نے جواب دیا: ”جیتے رہو“ اس پر حضور (اعلیٰ حضرت) نے عرض کیا کہ یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، ”وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ“ کہنا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب سن کر بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں!“

احوط کا اختیار کرنا: شروع ایام میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اکثر آشوب چشم کی شکایت

ہو جایا کرتی تھی۔ ایسی حالت میں جو پانی آنکھوں سے بہتا ہے وہ ظاہر مذہب میں قطعاً ناقص منہ نہیں ہے لیکن بعض فقہانے چونکہ اس کا ایک گونہ برعکس بھی لکھا ہے، اگرچہ وہ دلائل کے اعتبار سے قابل تسلیم نہیں اور ہمارے ائمہ کا فتویٰ بھی یہی ہے لیکن تقویٰ کا مقام چونکہ فتویٰ سے بھی آگے ہے، لہذا اس سلسلے میں مجدد و مآثرہ حاضرہ علیہ الرحمہ کا اپنا عمل ملاحظہ ہو:

”ایک بار آپ کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ اس حال میں مسجد کی حاضری کے وقت متعدد بار ایسا ہوتا کہ کبھی نماز سے قبل اور کبھی نماز کے بعد کسی شخص کو اپنے قریب بلا کر فرماتے: دیکھیے تو آنکھ کے حلقے سے باہر پانی تو نہیں آیا ہے ورنہ وضو کر کے نماز دہرائی پڑے گی“

آخری تحریر: شانِ خداوندی اور ناموسِ مصطفوی کے اس نگہبان کی آخری تحریر محمد الہی و ورد پاک پچنانچہ علامہ بدر الدین احمد نے امام اہلسنت کے بارے میں یوں وضاحت فرمائی ہے

”آپ نے ۲۵ صفر ۱۳۴۰ھ جمعہ مبارک کو وصال سے دو گھنٹہ سترہ منٹ پیشتر تجمیز و تکفین وغیرہ سے متعلق ضروری وصایا، جو چوکہ اہم باتوں پر مشتمل ہے، قلب بند کرائے اور آخر میں بارہ جگہ اکیس منٹ پر خود دستِ اقدس سے حمد و ورود شریف کے مندرجہ ذیل کلمات تحریر فرمائے: واللہ شہید ولہ الحمد وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علیٰ شفیع المذنبین والہ الطیبین وصحبہ المکرمین وابنہ وحبیبہ الی الابد الابدین امین والحمد للہ رب العالمین“

اصلی اور جعلی حنفی کی پہچان: بزرگانِ دین نے اپنے اپنے دور میں ان زبانوں کی مخصوص گراہیوں کے پیش نظر، کلمہ گویوں میں سے اہل حق و اہل باطل میں تمیز کرنے کے مختلف طریقے بتاتے۔ زمانہ حال کے مبتدعین میں سے اکثر تو ان کے مخصوص عقائد و نظریات اور

اقوال و افعال کی وجہ سے پہچان لیے جاتے ہیں لیکن جعلی حنفیوں کا جلال اتنا فریب اور غیر محسوس ہے کہ عوام الناس اُس کو سمجھنے سے قاصر ہو کر رہ گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ظاہری تقدس دین کے نام سے بھاگ دوڑ، دعویٰ حنفیت، احناف کی مسکت کتابوں سے استناد، اہلسنت کے اکابر کی بزرگی کو مستلزم رکھنے اور پیری مریدی تک کے نہ صرف قائل بلکہ اس پر عامل نظر آنے کی بنا پر عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ حنفی کیوں نہیں اور ان کے اہلسنت جماعت میں ہونے سے کیا چیز مانع ہے؟ لیکن ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ اتنے قریب ہو کر مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے کا یہ کاروبار کتنا فریب ہے؟ اسلام کی اصل بنیاد عقائد پر ہے اور عقائد میں توحید و رسالت کے صحیح تصورات کو مرکزی پوزیشن حاصل ہے لیکن ان حضرات نے توحید و رسالت کی حدود ایسی متعین کی ہیں جو اسلام کے بنائے ہوئے تصورات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ہانکے موحدوں کو ساری امت محمدیہ شرک کے سمندر میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کی توحید ذوالنویسہ، خوارج، داؤد ظاہری، ابن حزم، ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اسلبیل دہلوی کی بتائی ہوئی بیکوٹری ہوئی توحید تو ہو سکتی ہے لیکن اسلامی توحید ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ان موحدوں کی پہچان کا علمائے اہلسنت نے آسان ترین طریقہ بتایا ہے جو حسب ذیل ہے:

”جب حضرت مولانا (علامہ قادری شمس السہرامی مرحوم) بیٹھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اہل سنتی اور وہابی کی کیا پہچان ہے؟ ایسی بات بتائیے جس کے ذریعے ہم لوگ بھی سنتی اور وہابی کو پہچان سکیں۔ کوئی بڑی علمی بات نہ ہو۔ مولانا سہرامی نے فرمایا کہ ایسا آسان، عمدہ اور کھرا قاعدہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اُس سے اچھا ملنا مشکل ہے۔ آپ لوگ جب کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں کہ سنتی ہے یا وہابی؟ تو اُس کے سامنے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی کا تذکرہ چھپڑ دیکھیے اور اُس کے چہرے کو بغور دیکھیے، اگر چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار دکھائی پڑیں تو سمجھ لیجئے کہ سنتی ہے اور اگر چہرے پر پشیمردگی اور کدورت دیکھیے تو سمجھ جائیے کہ وہابی ہے۔ اور اگر وہابی نہیں جب بھی اُس میں

کسی قسم کی بے دینی ضرور ہے۔
 یہ کیوں نہ ہو؛ جبکہ مجدد کی آمد کا مقصد ہی دین میں نازگی پیدا کرنا اور حق و باطل کو واضح کر دینا ہے یہ
 اسی نے دین کی تجدید کا جھنڈا اٹھایا تھا
 نشانِ حقانیت کا جن کو مالک نے بنایا تھا

اگرچہ سختی منتق کا ملاحظہ کیا جائے کہ امام احمد رضا خاں بریلوی کو محبوب کے دشمنوں، گستاخوں
 اور مبتدعین زمانہ سے کتنی نفرت تھی تو اس کا واضح ثبوت آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ اگر
 سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں اور آپ کے لائے ہوئے دین میں
 کتر بیعت کر کے گمراہیوں کا بیج بونے والوں سے آپ کسی قسم کی رعایت کے روادار ہوتے
 تو آپ کے متعلق مبتدعین کی صفوں میں یہ طوفان بدتمیزی کیوں پایا جاتا جو آج بھی پوری شدت
 سے تلاطم خیز ہے۔ آپ نے مقدس شجر اسلام میں غیر اسلامی عقائد و نظریات کی پیوندکاری کرنا
 کو ٹوکا، سمجھایا، خوف خدا و خطرہ روز جزا یاد دلایا، جب وہ کسی طرح باز نہ آئے تو تنہا
 سب کا محاسب کیا، تقریر و تحریر کے ہر میدان میں اُنھیں لٹکارا، ہر مقام پر اُنھیں ساکت
 مہوت کیا، باطل کو مغلوب اور حق کو غالب کر دکھایا اور چراغِ مصطفویٰ کو اپنی چھونکوں سے
 بجھانے کی خاطر جس رنگ میں بھی بولہبی آئی آپ نے اُس کے پرچے اڑا کر رکھ دیے۔ علامہ
 بدر الدین احمد لکھتے ہیں:

”آج دنیا میں مشرکین و کفار، مرتدین اشرار، گمراہانِ فجار کا کوئی ایک بھی
 ایسا فرقہ نہیں ہے جس کے رد میں اعلیٰ حضرت کی متعدد تصنیفات نہ ہوں۔۔۔۔۔
 بد مذہبوں کی جس قدر فتنہ گر پارٹیاں ہیں اُن سب کے خود ساختہ اصول اور باطل
 اعتقادات کو اُنھیں کے مستلمات اُنھیں کے گھڑے ہوئے قواعد سے، اس
 طرح توڑ پھوڑ کر اُن کے دھوئیں اڑا دیے ہیں کہ تلاش و جستجو کے بعد اُن کا
 کوئی ایک ذرہ سلامت نہیں ملتا۔“

علامہ بدر الدین احمد، مولانا: سوانحِ اعلیٰ حضرت، ص ۹۳

محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے عالمانِ دین کا لبادہ اوڑھ کر
 ایسے ایسے گزرے اور نازیبا الفاظ استعمال کیے جن کی کبھی کھلے کافروں، غیر مسلموں کو بھی جرأت
 نہیں مہوئی تھی تو اس علمبردارِ شانِ مصطفویٰ نے ازراہ خیر خواہی مسلمانوں کو یوں سمجھایا اور ان
 لفظوں میں اُن علماء کے شر سے بچنے کی تلقین کی:

”لقد انصاف، اگر کوئی تمہارے ماں باپ استاد پیر کو گالیاں دے اور نہ صرف
 زبانی بلکہ لکھ لکھ کر چھاپے، شائع کرے، کیا تم اُس کا ساتھ دو گے؟ یا اُس کی
 بات بنانے کو تاویلیں گھڑو گے؟ یا اُس کے بگھنے سے بے پرواہی کر کے اُس سے
 بدستور صاف رہو گے؟ نہیں نہیں، اگر تم میں ایمانی غیرت، انسانی محبت،
 ماں باپ کی عزت حرمت عظمت محبت کا نام نشان بھی لگا رہ گیا ہے تو اُس
 بدگو، دشنامی کی صورت سے نفرت کرو گے، اُس کے سایہ سے دور بھاگو گے،
 اُس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے، جو اُس کے لیے بناوٹیں گھڑے اُس کے بھی
 دشمن ہو جاؤ گے۔“

پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پتلے میں رکھو اور اللہ واحد قہار و محمد رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو دوسرے پتلے میں۔ اگر مسلمان ہو،
 تو ماں باپ کی عزت کو اللہ و رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے۔ ماں باپ
 کی محبت و حمایت کو اللہ و رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے۔
 تو واجب واجب واجب، لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ اُن کے
 بدگو سے وہ نفرت و دوری و غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ
 کے ساتھ اُس کا ہزارواں حصہ نہ ہو۔“

اس خیر خواہ اسلام و مسلمین نے بھولے بھالے مسلمانوں کو اُن لوگوں کے شر سے بچنے، اُن
 علماء سے دور و نفور رہنے کی ان لفظوں میں تلقین فرمائی جو اللہ اور رسول کی جناب میں گستاخ

”ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرمایا چکے کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضروری ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تعظیم۔ تو اُس کی آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے کہ تم کو بہن لوگوں سے کسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو۔ جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے اجاب، تمہارے بڑے، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کسے باشد، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے اصلاً تمہارے قلب میں اُن کی عظمت، اُن کی محبت کا نام و نشان نہ رہے۔ قرآن اُن سے انکس ہو جاؤ، دو دوسرے کبھی کی طرح نکال کر چھینک دو۔ اُن کی صورت، اُن کے نام سے نفرت کھاؤ۔ پھر تم اپنے رشتے علاقے، دوستی الفت کا پاس کرو، نہ اُن کی مولویت، مشینت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ کہ آخر جو کچھ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا، جب شخص اُنہیں کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اُس کا کیا علاقہ رہا؟

اُس کے مجھے عمامے پر کیا جاتیں؟ کیا ہتیرے یہودی جتے نہیں پہنتے، عمامے نہیں باندھتے؟ اُس کے نام علم و ظاہر ہی فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا ہتیرے پادری، بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اُس کی بات بنانی چاہی اُس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اُس سے دوستی نہا ہی، یا اُسے ہر بڑے سے بدتر بوزن جانا، یا اُسے جبراً کھنے پر آمادہ، یا اسی قدر کہ تم نے اُس سے ارمی بے پروائی منائی یا تمہارے دل میں اُس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو اللہ! اب تمہیں انصاف کرو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس

ہوتے؟ قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اُس سے کتنی دور نکل گئے؟ مسلمانو! کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ اُن کے بدگوئی و قوت کر سکے گا؟ اگرچہ اُس کا پیر یا استاد ہی کیوں نہ ہو۔ کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں گے وہ اُن کے گستاخ سے فوراً سخت شدہ بد نفرت نہ کرے گا، اگرچہ اُس کا دوست یا برادر یا پسر ہی کیوں نہ ہو! لہ

قرآنی آیات پیش کر کے، خدا اور رسول (جل جلالہ، و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی عظمت کا تصور دلا کر ایمان کے تقاضے سمجھا کر، گستاخوں کے بارے میں مسلمانوں کو مزید یوں فہمائش کی جاتی ہے:

”اِس آیت کی میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اُس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح مفاد ہوا کہ جو اُس سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالقصریح ارشاد فرمایا کہ باپ بیٹے بھائی عوریں سب کو گنا یا یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں محترم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اُس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اُس کی وقعت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔“

امام اہلسنت، مجدد دین و ملت کی آخری محفل ہے۔ سفر آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو ملک کے کونے کونے سے عبادت کے لیے پہنچ رہے ہیں اس موقع پر بھی مسلمانوں کو ذیاب فی ثیباب کا بہروپ بھرنے والوں، رہبروں کے روپ میں مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور سے یوں آخری بار خبردار کیا جاتا ہے:

”اے لوگو! تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھوٹی پیڑیں بناؤ اور

بھیڑتے تمہارے چاروں طرف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا تیں، تمہیں
فتنہ میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ اُن سے بچو اور دُور
بھاگو۔ دیوبندی، رافضی، نیچری، قادیانی، چکڑا لوی یہ سب فرقتے بھڑیٹے
ہیں، تمہارے ایمان کی ناک ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں، حضور سے
صحابہ کرام روشن ہوئے، صحابہ کرام سے تابعین عظام روشن ہوئے، تابعین
تبع تابعین روشن ہوئے، اُن سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، اُن سے ہم
روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں، یہ نور ہم سے لے لو۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے،
کہ تم ہم سے روشن ہو، وہ نور یہ ہے کہ اللہ ورسول کی سچی محبت، اُن کی تعظیم اور
اُن کے دوستوں کی خدمت اور اُن کی تکویم اور اُن کے دشمنوں سے سچی عدالت
جس سے اللہ ورسول کی شان میں ادنیٰ توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا
کیوں نہ ہو، فوراً اُس سے جدا ہو جاؤ، جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی
گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو اپنے اندر سے اُسے
دُودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔

میں پونے چودہ برس کی عمر سے ہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرنا ہوں
اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا مگر نہیں
معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتاتے؟ اس لیے ان باتوں کو
خوب سن لو، حجۃ اللہ قائم ہو چکی۔ اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ
آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اُس کے لیے نور و
نجات ہے اور جس نے مانا، اُس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے۔ لے

محبوب پروردگار، آقائے نامدار، شفیع المذنبین، رحمة للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

شان و عظمت کا یہ محافظ، اُس درِ اقدس کا سچا دربان، اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ
کی غلامی پر اتنا نازاں تھا کہ اس در کی غلامی پر تختِ جم اور دیہیم قیصر کو نثار کر رہا تھا، اس
غلامی کو وہ کسی بڑے سے بڑے دنیاوی اعزاز کے بدلے چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا، اس
در کی غلامی تو بڑی بات ہے وہ محبوب کی دیوار کے سایے میں کھڑا ہونا اور درِ اقدس کی
خاک کو تاج و تخت سے ہزار درجہ بہتر سمجھنا اور اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں یوں دُعائیں
مانگنا تھا: ہ

سایہ دیوار و خاکِ در ہو یارب اور رضا
خواہشِ دیہیم قیصر، شوقِ تختِ جم نہیں

گدا کے دریا و لبیا،

عبدالحکیم خاں اختر

مجددی مظہری شاہجہان پوری

لاہور

۲ جمادی الاول ۱۳۵۵ھ

مطابق ۱۵ مئی ۱۹۳۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جہاد بالسیف جہاد بالنفس جہاد بالتمم

کھرو الحاد کے خلاف ہر محاذ پر قیامت تک جہاد جاری رہنا چاہیے

ادارہ معارفِ نعمانیہ لاہور

۱۹۸۹ء


جہاد باقلم جاری رکھے ہوتے ہے

آپ بھی ادارہ معارفِ نعمانیہ کی رکنیت اختیار فرما کر اس جہاد میں شمولیت کا شرف حاصل کریں۔

فارم رکنیت ادارہ معارفِ نعمانیہ ۳۳ شاد باغ لاہور سے طلب فرمائیے۔



ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ ﷺ
سیدی اعلیٰ حضرت پر لاکھوں سلام



رضوی فاؤنڈیشن پاکستان

E-mail: rizvifoundation@hotmail.com